

# اسلامی پریوری رائج مُراجِع کاظمی کار



تحریر  
ڈاکٹر مولانا عجاز احمد صمدانی

استاد جامعہ دارالعلوم کراچی

الدارہ الاسلامیات

کراچی، لاہور



# اسلامی پیشوں ہیں راجح مرابعہ کا طریق کار



مُخْرِّب  
ڈاکٹر مولانا عجائز حمدانی  
استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

اطارہ اسلامیات

کراچی، لاہور



﴿جملہ حقوق محفوظ ہیں﴾

کتاب: اسلامی بینکوں میں راجح مراجع کا طریقہ کار

میوںاف: ڈاکٹر مولانا ابیاز احمد صدیقی

باہتمام: اشرف برادران سلمیم الرحمن

ناشر: ادارہ اسلامیات کراچی - لاہور

کمپوزنگ: طلخہ کمپیوٹر کمپوزنگ ۰۳۲۱-۲۷۱۶۶۱۴

سن اشاعت: ذی قعده ۱۴۲۷ھ، دسمبر ۲۰۰۶ء

### پبلشرز بکے سیلوز ایکسپو و ٹاؤن

☆ ادارہ اسلامیات موہن روڈ، چوک اردو بازار کراچی فون: ۰۲۲۲۰۱۲

☆ ادارہ اسلامیات ۱۹۰، انارکلی، لاہور۔ پاکستان فون: ۰۵۳۲۵۵۷

☆ ادارہ اسلامیات دینا تک منشن مال روڈ، لاہور فون: ۰۳۲۳۳۱۲

ملنے کے پتے:-

ادارة المعارف: ڈاک خانہ دارالعلوم کراچی ۱۳

مكتبة دارالعلوم: جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۳

دارالاشاعت: ایم اے جناح روڈ کراچی نمبرا

بيت القرآن: اردو بازار کراچی نمبرا

بيت الکتب: نزد اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک نمبر ۲ کراچی

بيت العلوم: ۲۶ نابھہ روڈ لاہور

ادارة تاليفات اشرفيه: بیرون بوہر گیٹ ملتان شہر

ادارة تالیفات اشرفیہ: جامع مسجد تھانیووالی ہارون آباد بہاولنگر

## فہرست عنوانات

۸	رائے گرامی حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب مدظلہم
۱۰	رائے گرامی انوار احمد مینائی صاحب
۱۵	نقش اول
۲۱	تعارف (Introduction)
۲۲	طریقہ کار (Procedure)
۲۲	پہلا مرحلہ: کلاسٹ کی درخواست اور اس کی منظوری
۲۳	دوسرा مرحلہ: لمحت (Limit) کی منظوری
۲۵	تیسرا مرحلہ: مطلوبہ سامان کا حصول
۲۶	چوتھا مرحلہ: مراجع کا عقد
۲۷	پانچواں مرحلہ: ادائیگی
۳۱	تفصیلی جائزہ
۳۱	لاگت کے تعین کی ضروری شرائط
۳۲	پہلا مرحلہ
۳۶	دوسرा مرحلہ
۳۷	تیسرا مرحلہ
۳۹	اینجنسی ایگر یمنٹ میں قابل لحاظ پہلو
۴۲	کلاسٹ کی طرف سے پلاز کا متعین ہونا
۴۳	وکالت کی نیت

۲۵	مشترکہ خریداری
۳۶	خریداری کا جائزہ
۳۷	شراکٹ
۳۸	چوتھا مرحلہ
۳۹	قبضہ کرنا ضروری ہے
۴۰	ایک سوال اور اس کا جواب
۵۰	مراجع اور سودی ٹرانزیکشن میں بنیادی فرق
۵۱	قبضہ کب تھا جائیگا
۵۲	کائنٹ کے ذریعے خریداری میں چند مزید احتیاطیں
۵۳	مراجع کے عقد میں قابل لحاظ پہلو
۵۷	آخری مرحلہ: ادائیگی
۶۰	عدم ادائیگی کا خطرہ (Risk of Default)
۶۰	ضمانات (Collateral) کی اقسام
۶۰	جزل گارٹی (General Guarantee)
۶۰	ہائپوھلیشن (Hypothecation)
۶۰	رضن (Pledge)
۶۱	مقاصہ (Setoff)
۶۲	پیچہ گارٹی (Paper Guaranty)
۶۲	شپنگ گارٹی (Shipping Guaranty)
۶۳	ادائیگی میں تاخیر کا خطرہ (Risk of Late Payment)
۶۵	قبل از وقت ادائیگی کی صورت میں رعایت
۶۹	امپورٹ مراجع
۷۰	ایل سی کی قسمیں (Kinds of L/C)

۷۱	ایل سی اور کنونیشنل بینک
۷۱	وکالت (Agency)
۷۱	ضمانت (Guarantee)
۷۳	اسلامی بینک کا کردار: امپورٹ مراجع میں
۷۵	مراجع کس مرحلے پر کیا جاسکتا ہے؟
۸۱	(Documents of Murabaha)
۸۱	کلائنٹ کی درخواست (Client's Application)
۸۱	کریڈٹ پروپوزل (Credit Proposal)
۸۲	جزل ایگریمنٹ
۸۲	لیٹر آف گارنٹی
۸۳	اچھنی ایگریمنٹ
۸۳	لوکل پر چیز آرڈر
۸۳	مذکورہ نرخ پر خریداری کا اجازت نامہ
۸۳	خریداری کی تصدیق
۸۵	ایجاد برائے خریداری
۸۵	بینک کا قبول کرنا
۸۶	نمونہ
۸۹	ادائیگلی کاشیدوں
۸۹	پرمیسری نوٹ
۹۰	سیکورٹی کے کاغذات
۹۰	مراجع کے ڈاکومینٹس پر (Fill) کرنے کی ترتیب
۹۱	پہلا مرحلہ
۹۲	دوسرा مرحلہ

- ۹۳ امپورٹ مراجعہ میں  
سوالات و جوابات
- ۹۷ مراجعہ اور عامہ نفع میں فرق  
کیا کان کو ادھر کے بجائے ادھر سے پکڑنے والی بات ہے؟  
کیا اسلامی بینک خرید و فروخت کا کام بھی کرتا ہے؟  
کیا خرید و فروخت کے لئے با قاعدہ دو کان ہونا ضروری ہے؟  
بینک مطلوبہ سامان خود کیوں نہیں خریدتا؟  
کیا مراجعہ کرنے سے پہلے ضمانت (Collaterals) لی جاسکتی ہیں؟  
کیا شرح سود کو معیار (Benchmark) بنانا جائز ہے؟  
کیا نفع کی تعیین میں مدت کو بنیاد بنا�ا جاسکتا ہے؟  
کیا اسلام میں Time value of money کا اعتبار ہے؟  
کیا اسلامی بینک اپنے کائنٹ سے جرمانہ لیتا ہے؟  
کیا زبردستی صدقہ کرانا جائز ہے؟  
کیا صدقہ (Charity) کرنے کی شرط لگانے سے عقدنا جائز نہیں ہوتا؟  
کیا صدقہ بینک کے ذریعے کرنا ضروری ہے؟  
کیا یہ التزام بذریعہ عدالت نافذ کرانا جائز ہے؟  
کیا کائنٹ خود اپنے آپ کو سامان بیچ سکتا ہے؟  
کیا انوائس کائنٹ کے نام بنائی جاسکتی ہے؟  
کیا قبضہ کئے بغیر مراجعہ کیا جاسکتا ہے؟  
کیا مراجعہ سے پہلے سامان آگے بیچا جاسکتا ہے؟  
اگر مراجعہ سے پہلے کائنٹ نے سامان بیچ دیا یا استعمال کر کے ختم کر دیا تو  
کیا حکم ہے؟  
کیا وعدہ کو بذریعہ عدالت پورا کرایا جاسکتا ہے؟

- |     |  |
|-----|--|
| ۱۲۸ | اسلامی بینکوں کو انسورنس کی اجازت کیوں دی گئی؟                             |
| ۱۳۰ | کیا نفع متعین یعنی فکس کرنے سے سود بن جاتا ہے؟                             |
| ۱۳۲ | ایل سی چار چیز لینے کا حکم   |
| ۱۳۶ | کیا قبل از وقت ادائیگی کی صورت میں کلائنٹ کو رعایت (Rebate) دی جا سکتی ہے؟ |
| ۱۳۷ | کیا صدقہ (Charity) کو معاف کر کے اگلی ٹرانزکشن میں نفع بڑھایا جا سکتا ہے؟  |
| ۱۳۸ | کیا مرابحہ سے پہلے پرو میری نوٹ لیا جا سکتا ہے؟                            |
| ۱۴۰ | کیا کئی ٹرانزیکشنز کا اکٹھا ایک پرو میری نوٹ تیار کیا جا سکتا ہے؟          |
| ۱۴۰ | مرابحہ میں روول اوور (Rollover) کیوں ناجائز ہے؟                            |
| ۱۴۱ | کیا مرابحہ کو سیکوریٹیاں کیا جا سکتا ہے؟                                   |
| ۱۴۲ | امپورٹ مرابحہ میں ایل سی کے ساتھ اچھی ایگریمنٹ کیوں کرایا جاتا ہے؟         |

## رائے گرامی

حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی مدظلہم

استاذ الحدیث و نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى .

اما بعد !

عزیز کرم مولانا ابیاز احمد صمدانی سلمۃ اللہ تعالیٰ وزیدت مکار مہم ان نوجوان علماء میں سے ہیں جو قدیم و جدید علوم حاصل کرتے ہوئے اپنی تمام کوششیں علوم دینیہ کی خدمت کے لئے وقف کر رہے ہیں۔ دوسرے مضامین کے علاوہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ”اسلامی بینکاری اور غرر“ اور ”اسلامی بینکاری ایک حقیقت پسندانہ جائزہ“ کے عنوان سے ان کی دو کتابیں پہلے چھپ چکی ہیں اور قدیم و جدید حلقوں کے لئے مفید ثابت ہوتی ہیں اب اسلامی بینکاری کے سلسلہ میں ان کی یہ تیسرا تحریر ”اسلامی بینکوں میں راجح مراجع کا طریقہ کار“ کے نام سے آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

احقر نے ایک نظر اس کا مطالعہ کیا ہے ماشاء اللہ یہ تحریر بھی بہت آسان اور

مفید ہے اور انہوں نے اسلامی بینکوں میں کئے جانے والے "مراجع" کی پوری نظریاتی اور عملی تفصیل آسان زبان میں اس طرح تحریر کر دی ہے کہ علماء و طلباء، بینکوں کے کارکنان، اور بینکوں سے مالیاتی تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے حضرات سب ہی بآسانی اسے سمجھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ موصوف سلمہ کی عمر اور علم میں برکت عطا کریں اور ان کی تحریریات کو اپنی  
بارگاہ میں شرف قبول سے نوازیں۔ آمين

احقر محمود اشرف غفر اللہ لہ

دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی

۵ ربیعی القعدہ ۱۴۲۷ھ بروز جمعۃ المبارک

## رائے گرامی

جناب انوار احمد مینائی صاحب

مر براہ اسلامک بینکنگ ڈیپارٹمنٹ، نیشنل بینک آف پاکستان

باسمِ سبحانہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

احقر کیلئے یہ بات باعثِ سرت ہے کہ فاضل مصنف برادر م اعجاز احمد صمدانی صاحب نے مرا بح کے موضوع پر اپنی گرانقدر تصنیف پر تقریظ لکھنے کے لئے مجھ سے بھی فرمائش کی ہے۔ ان کے ارشاد کی تعمیل میں باوجود بے علمی اور کم مانگی کے چند سطحیں سپر قلم کر رہا ہوں۔

پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی جہاں اسلامی بینکاری کا چرچا ہوا وہاں غالباً سب سے زیادہ پذیرائی مرا بح کے معاملے ہی کوئی۔ بادی انظر میں تو یہ معاملہ بہت سادہ اور آسان لگتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سودی معاملات سے پچنا اس وقت ہی ممکن ہے جب مرا بح میں خرید و فروخت کی تمام شرائط کی پابندی کیجائے اور ان کا پورا پورا اہتمام کیا جائے۔ اس خیال کے باعث ایک عرصے سے احقر کی یہ دلی خواہش تھی کہ مرا بح کے موضوع پر کوئی صاحب علم ایسی کتاب یا رسالہ تحریر کر دے جس میں مرا بح پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ، عام طور پر کی جانیوالی غلطیاں اور اس ضمن میں ذہنوں میں پیدا ہونیوالی الجھنوں اور سوالات کا عام فہم انداز میں جواب، ایک ہی جگہ موجود ہوں۔

برادرم ابیاز احمد صمدانی صاحب ہم سب کی طرف سے شکریہ اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کام کی طرف توجہ کی اور ایک بسیط تحریر مرابح پر تیار کر لی۔ میں ان کا ممنون ہوں کہ کتاب کا مسودہ انہوں نے مجھے بھی عنایت کیا اور احقر کی بعض تجاویز کو اس قابل سمجھا کہ کتاب میں ان کی رعایت کی جائے۔ فی الحقیقت یہ برادرم ابیاز احمد صمدانی صاحب، ان کے کئی رفقاء اور ان کے اساتذہ کرام، خصوصاً مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا فیض نظر ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی ان موضوعات پر اظہار خیال کرنے کے ابل اور قابل سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق اور تائید کے علاوہ یہ اسی فیض اور توجہ کا نتیجہ ہے کہ ایک عرصے تک سراسر سودی بینکاری کے شعبے سے وابستگی کے بعد احقر کو اسلامی بینکاری کی طرف آنے اور اس کی مبادیات کو سمجھنے کا موقع ملا۔

وہ تمام لوگ جو بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کے لئے یہ کتاب نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے یہ بات پیش نظر رہنا چاہئے کہ مرابح اسلامی بینکوں کی منزل مقصود نہیں ہے بلکہ سراسر سودی معاملات سے بچنے کا ایسا طریقہ ہے جس پر عمل کرنا نسبتاً آسان ہے۔ یہی حال بعض دوسرے معاملات کا ہے جن پر اسلامی بینک عمل پیرا ہیں۔ دراصل جو کام کرنا مطلوب ہے وہ مشارک اور مضاربہ کے معاملات کو اس طرح رو عمل لانا ہے کہ کسی بھی مسلمان تاجر کو سودی بینکوں سے کوئی کاروبار کرنے کی حاجت ہی نہ رہے۔ اسی ذریعے سے اسلام کا وہ معاشری نظام سامنے لایا جا سکتا ہے جس کو دیکھ کر بر انصاف پسند آدمی یہ کہہ اٹھئے کہ فی الواقع انسانیت کی تجات اسی میں ہے۔ یہ کام نہ ہمارے جیسے بینکر، نہ علمائے کرام، نہ ہی مرکزی بینک اور نہ ہی متفہنہ تن تنہا انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے لئے مربوط اور مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اس کیلئے ایثار اور قربانی کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ کے


آپنے بندے اسے کسی بھی مالی منفعت کے لائق سے بے نیاز ہو کر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ”والذین جا هدوا فینا لنھدینہم سُبلنا“ [الروم] (جو لوگ ہماری راہ میں جدو جہد کریں گے ان کو ہم ضرور اپنے رستے دکھادیں گے)۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم صرف کوشش کرنے کے مقابلہ میں نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاضل مصنف کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور اسے عامۃ الناس کیلئے نافع بنادے۔

احترام العباود

انوار احمد مینانی

کراچی، ۱۴۲۷ھ



ان تمام مسلمانوں کے نام  
جو اسلامی بینکاری کے عملی نفاذ کیلئے کوشش ہیں

ڈاکٹر مولانا اعجاز احمد صمدانی کی کتب۔ ایک نظر میں

— غر کی صورتیں ☆

— مالی معاملات پر غر کے اثرات ☆

— اسٹیٹ ایجنسی سے متعلق کار و بار کے شرعی احکام ☆

— آسان فلکیات ☆

— اسلامی بینکاری اور غر ☆

— اسلامی بینکاری ایک حقیقت پسندانہ جائزہ ☆

— اسلامی بینکوں میں راجح مرا بح کا طریقہ کار ☆

— مشترکہ خاندان میں پردے کا حکم ☆

— تکافل۔ انشورنس کا اسلامی طریقہ (زیر طبع) ☆

— عشر و خراج کے ضروری احکام (زیر طبع) ☆

ملنے کا پتہ:

ادارہ اسلامیات کراچی، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## نقش اول

الحمد لله! یہ بات باعثِ مسرت ہے کہ وطن عزیز سمت دنیا بھر میں اسلامی بینکاری کا رجحان روز بروز بڑھ رہا ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف نئے نئے اسلامی بینک اور مالیاتی ادارے قائم ہو رہے ہیں بلکہ پہلے سے موجود کمرشل بینک بھی اپنے ہاں اسلامی بینکاری کے شعبے قائم کر رہے ہیں۔

یہ تبدیلی جہاں ایک طرف مسلمانوں کی بیداری کا پیغام دے رہی ہے کہ اب مسلمان اپنی زندگیوں میں اسلام کو صرف مسجد و محراب تک محدود رکھنے کے بجائے اپنے معاملات کے تمام شعبوں میں نافذ کرنے کے لئے تیار ہو چکے ہیں وہاں دوسری طرف اس بات کی بھی غمازی کر رہی ہے کہ اسلام وہ واحد دینِ حق ہے جو چودہ صدیاں گذرنے کے بعد آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح زمانہِ ماضی میں لاٹتے اتباع تھا۔ یہ ہر زمانے میں ہونے والی تبدیلیوں کے پورے احکامات اپنے اندر لئے ہوئے ہے اور ہر دور کے انسانوں کی رہنمائی کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔

یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ انسانی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، روزمرہ معاملات کی وہ صورتیں جن کا تصور ماضی کے انسان کیلئے ایک خواب تھا وہ

حقیقت بن کر سامنے آچکی ہیں اور یہ زمانے کی فطرت بھی ہے کہ وہ مختلف کروٹیں بدلتا رہتا ہے لیکن اسلام چونکہ قیامت تک رہنے کیلئے آیا ہے اسلئے اسکی تعلیمات میں ایسی جامعیت موجود ہے کہ ان کے ذریعے ہر دور کے مسائل کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ جس طرح گذشتہ زمانے کے فقهاء کرام نے اپنے دور میں رونما ہونے والے معاملات کی جدید صورتوں کے شرعی احکام قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے تفصیل سے بیان کئے، اسی طرح آج کے دور میں موجود علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ موجودہ زمانے میں راجح معاملات کی حقیقت کو سمجھیں اور ان کا شرعی حل عوام کے سامنے پیش کریں۔ عصر حاضر میں جس طرح زندگی کے دیگر میدانوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اسی طرح تجارت اور باہمی لین دین کے طریقوں میں بھی بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ بیع الخیارات (Option Sale) ، عقود المستقبلیات (Future Sale) ، حاضر اور غائب سودے (Forward Sale) وغیرہ وہ معاملات ہیں جن کا ماضی میں عملی وجود تو درکنار، ان کا کوئی تصور تک نہیں تھا، لیکن اب عملی حقیقت بن کر سامنے آچکی ہیں، یہی حال بینکاری میں راجح فناں کے طریقوں (Modes of Finance) کا ہے، بینکاری کا یہ نظام قدیم فقهاء یا محدثین کے زمانے میں بالکل نہ تھا بلکہ سولہویں صدی کے آخر میں اس کا آغاز ہوا اور آج یہ اپنی جدید سے جدید تر شکل میں موجود ہے۔

اس میں شکنہیں کہ موجودہ بینکنگ کا نظام ہمارے معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہے اور موجودہ حالات میں کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے لیکن دوسری طرف اس میں راجح معاملات میں سے اکثر ناجائز اور حرام ہیں۔ ان حالات میں ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں۔

ایک یہ کہ ہم بینکوں کے معاملات سے اپنے آپ کو مکمل طور پر الگ کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ موجودہ بینکوں میں راجح ناجائز معاملات کا شرعی تبادل تلاش کر کے اس نظام کو اختیار کیا جائے۔

ظاہر ہے کہ پہلی صورت کو اختیار تقریباً ناممکن سا ہے کیونکہ ہمارے روزمرہ کے معاملات، تجارتیں خصوصاً ایمپورٹ اور ایکسپورٹ میں بینک بہت زیادہ دخیل ہیں، اور ان سے اپنے آپ کو مکمل طور پر الگ کر کے زندگی گذارنا عملًا ممکن نہیں، اسلئے قابل عمل بات یہی ہے کہ موجودہ بینکاری کو اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے۔

اللہ رب العزت ان علماء کرام کو جزاً نیز خیر عطا فرمائیں جنہوں نے اس کٹھن کام کا بیڑا اٹھایا اور بالآخر مسلمانوں کے سامنے اسلامی بینکاری کا قابل عمل نظام پیش کر دیا۔

بعض لوگ جو دیگر علوم میں مہارت رکھتے ہیں لیکن مروجہ بینکاری کے نظام کی حقیقت سے اچھی طرح واقف نہیں، ان کی طرف سے بعض مرتبہ راجح اسلامی بینکاری کے بارے میں شبہات کا اظہار ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے حقیقت سے بے خبر عوام بھی بعض مرتبہ تشویش کا شکار ہو جاتی ہے اور یہ کہنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں اس وقت راجح اسلامی بینکاری کا نظام صحیح اسلامی نظام ہے یا نہیں؟ چنانچہ اس سلسلے میں مختلف طبقہ ہائے خیال کی طرف سے اس بارے میں سوالات بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ اسلئے اس بات کی ضرورت تھی کہ راجح اسلامی بینکاری کے طریقہ کار کا ایک ایسا اجمانی اور جامع تصور متعارف کرایا جائے جو شبہات کے ازالے میں معین و مددگار ہو۔

اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے احقر نے اپنے بعض بزرگوں اور دوستوں کے مشورے سے اسلامی بینکوں میں راجح فناں کے طریقوں کا تفصیلی تعارف کرانے کا ارادہ کیا۔ چونکہ مروجہ اسلامی بینکاری میں مراجع سب سے زیادہ راجح ہے اور اس پر

شبہات بھی سب سے زیادہ کئے گئے ہیں اسلئے اس سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، خواہش ہے کہ یہ سفر جاری رہے۔

انتہائی ناپاسی ہوگی اگر میں اپنی عقیدت کے مرکز استاذِ محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مظلہم کا تہبہ دل سے شکریہ ادا نہ کروں کہ جن کے علمی بھرپور اس سے مستفید ہو کر احقر یہ رسالہ لکھنے کے قابل ہوا۔ ان کے علاوہ استاذِ مکرم مولانا محمود اشرف عثمانی مظلہم، برادر مکرم مولانا خلیل احمد عظیمی صاحب، مولانا محمد حسان کلیم صاحب، مولانا محمد نجیب صاحب اور جناب انوار احمد مینائی صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے مصروفیات کے باوجود اس رسالے کی تیاری میں ہر ممکن تعاون فرمایا اور انتہائی مفید مشوروں سے نوازا۔

### وضاحت:

اس رسالے کو اس طرح مرتب کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے مراجع کا تعارف، پھر اس کا اجمالی طریقہ کار (Procedure) بیان کر کے مراجع کے طریقہ کار پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، اس کے بعد مراجع کے ان ڈاکو منش کے نمونے (Specimen) بھی دیئے گئے ہیں، جن کے ذریعے مراجع کا عملی طریقہ کار سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ آخر میں مراجع کے بارے میں پیدا ہونے والے اشکالات اور ان کے جوابات ذکر کئے گئے ہیں۔

اللہ کرے کہ یہ رسالہ بارگاہ الہی میں شرفِ قبولیت حاصل کرے اور اسلامی جینکاری کے طریقہ کار کو سمجھنے میں سنگ میل ثابت ہو۔ (آمین)

اعجاز احمد صداقی

جامعہ دارالعلوم کراچی

مرجع الثانی ۱۳۲۷ھ

## تعارف

(Introduction)



## تعارف

### (Introduction)

مراجع دراصل بيع (Sale) کی ایک قسم ہے جس میں فروخت کنندہ (Seller) اپنی چیز دوسرے کو بیچتے وقت یہ بتلاتا ہے کہ یہ چیز اسے کتنے میں پڑی اور وہ اس پر کتنا نفع (Profit) لے رہا ہے۔

ایک سادہ بيع (Simple Sale) اور مراجع کے اندر فرق یہ ہے کہ سادہ بيع کے اندر سامان بیچنے والا شخص (Seller) یا سپلائر (Supplier) اپنی چیز کی ایک متعین قیمت بتلاتا ہے اس میں یہ وضاحت نہیں کرتا کہ وہ چیز اسے کتنے میں پڑی اور وہ اس پر کتنا نفع رکھ کر آگے بیچ رہا ہے (اس کو "بيع المساومة" بھی کہتے ہیں) جبکہ مراجع کے اندر فروخت کنندہ (Seller) خریدار کو چیز کی وہ لائگت بھی بتلاتا ہے جس پر اس نے خریدی اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ وہ اس پر کتنا نفع لے کر آگے فروخت کر رہا ہے، گویا یہ لائگت + نفع (Cost+Profit) پر کسی چیز کی بيع (Sale) ہے۔

بنیادی طور پر تو مراجع ایک خرید و فروخت (Sale) کا عقد ہے، کوئی طریقہ تمویل (Mode of Finance) نہیں لیکن عصر حاضر میں اسلامی بینکاری کے اندر اسے

چند شرائط کے ساتھ بطور طریقہ تمویل (Mode of Finance) استعمال کیا جاتا ہے۔

ذیل میں بطور طریقہ تمویل مراجع کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے:

### طریقہ کار (Procedure)

اسلامی بینکوں میں مراجع کے نام سے جو تراز کشن (Transaction) کی جاتی ہے، اس میں صرف مراجع نہیں ہوتا بلکہ اور بھی بہت سے معاملات (Contracts) ہوتے ہیں لیکن چونکہ دوسرے معاملات (Contracts) اسی مراجع کی تکمیل کیلئے عمل میں آتے ہیں اسلئے اس پورے عمل کو ”مراجع“ کا نام دیا جاتا ہے۔

اس کی عملی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک شخص کو کوئی سامان خریدنے کیلئے رقم کی ضرورت ہے وہ اگر عام سودی بینک کے سامنے اپنی اس ضرورت کا اظہار کرے تو سودی بینک اسے سودی قرضہ دیگا اور متعین اقساط میں قرض مع سود وصول کریگا۔

لیکن اسلامی بینک اس کی یہ ضرورت پوری کرنے کیلئے خود ہی وہ چیز بازار سے خریدے گایا اسے مطلوبہ چیز خریدنے کیلئے اپنا وکیل بنایا گا، بینک کے وکیل کی حیثیت سے جب یہ شخص (Client) مطلوبہ چیز خرید کر اس پر قبضہ کر لیگا تو بینک مراجع کے طریقہ پر وہ چیز اسے بیچ دیگا کہ یہ چیز اتنے میں پڑی ہے اور اس پر اتنا نفع رکھ کر میں آپ کو یہ بیچ رہا ہوں، کلاسٹ کی ادائیگی یکمشت یا فسطوں میں کریگا۔

مراجع کی عملی شکل مختلف مراحل پر مشتمل ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

### پہلا مرحلہ

کلاسٹ کی درخواست اور اس کی منظوری:

سب سے پہلے کلاسٹ (عملی) کی طرف سے مراجع کی سہولت حاصل

کرنے کی درخواست دی جاتی ہے یہ درخواست تحریری بھی ہو سکتی ہے اور زبانی بھی۔

اس درخواست کو منظور کرنے کے لئے بینک کلائنٹ کی مالی حیثیت کا اندازہ

لگاتا ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ:

کلائنٹ کے ذرائع آمدنی کیا ہیں؟.....

کلائنٹ پر مختلف بینکوں کی طرف سے کیا کیا ذمہ داریاں (Liabilities) عائد

ہیں اور ان ذمہ داریوں کی وجہ سے اس پر کل کتنی رقم واجب الاداء (Payable) ہے؟

کیا موجودہ حالات میں کلائنٹ بینک کی رقم ادا کرنے کے قابل ہو گا یا نہیں؟.....

کیا کلائنٹ کسی بینک کا نادہنده (Defalter) تو نہیں؟.....

کلائنٹ کی مالی حیثیت اور اس کے کاروبار کا تجزیہ وغیرہ.....

اس طرح کی معلومات جمع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بینک یہ اطمینان

کر لے کہ اسکا کلائنٹ یہ رقم اسے بروقت ادا کرنے کے قابل ہو گا یا نہیں۔ اس عمل

Credit Assessment (Procedure) کو کہا جاتا ہے۔

Credit Assessment کا یہ طریقہ کار کنوپیشل بینکوں سے مختلف

نہیں ہوتا البتہ مراہج کی Credit Assessment میں اسلامی بینک مزید چند

باتوں کا جائزہ لیتے ہیں جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

## دوسری مرحلہ

لیمٹ (Limit) کی منظوری:

اگر کلائنٹ کے مالی حالات کا تجزیہ (Credit Assessment) کرنے

کے بعد بینک کی رائے یہ ہو کہ یہ کلائنٹ ہمارے مطلوبہ معیار پر نہیں اترتا تو اس کی

درخواست مسترد (Reject) کردی جاتی ہے اور اگر بینک اسکے مالی حالات سے مطمئن ہو تو اس کی درخواست منظور (Accept) ہو جاتی ہے۔

درخواست کی منظوری کے بعد اگلی مرحلہ حد تمویل کی منظوری کا ہے، جسے انگریزی میں لیٹ (Limit) کہتے ہیں، منظور ہونے والی Limit دو طرح کی ہوتی ہے۔

#### ۱۔ مجموعی لیٹ      ۲۔ صرف ایک ٹرانزکشن کیلئے لیٹ

بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کلانچٹ زیادہ رقم مثلاً سو ملین کی لیٹ منظور کرایتا ہے (جس کا مطلب یہ ہے کہ بینک سو ملین تک کی خریداری کر کے اسے مراجع پر سامان فروخت کرنے کیلئے تیار ہے) لیکن اسے فوری طور پر اتنے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وقفہ وقفہ سے اسے اتنی رقم کا سامان خریدنا ہوتا ہے کبھی دس ملین کا، کبھی پندرہ ملین کا اور کبھی کم و بیش رقم کا وغیرہ، اس صورت میں پہلے ایک بڑی رقم کی لیٹ اسلئے منظور کی جاتی ہے تاکہ ہر مرتبہ کی خریداری کیلئے الگ الگ لیٹ منظور نہ کرانی پڑے، چنانچہ اس صورت میں کلانچٹ و قافو قما حسب ضرورت اسی لیٹ کے اندر رہ کر بینک سے مراجع کے ذریعے مطلوب اشیاء خریدتا رہتا ہے۔ یہ لیٹ منظور کرانے کی پہلی صورت ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کلانچٹ بینک سے اتنی ہی رقم کی لیٹ منظور کرایتا ہے جتنی رقم کی خریداری اسے کرنی ہوتی ہے، ایسی صورت میں اگر آئندہ اسے کسی اور سامان کے لئے مراجع کرنے کی ضرورت پڑے تو نئی لیٹ منظور کرنا پڑتی ہے۔

لیٹ کی منظوری ایک جزو ایگریمنٹ (General Agreement) کے ذریعے کی جاتی ہے، اسے Facility Agreement (بھی کہتے ہیں اس ایگریمنٹ پر منظور شدہ لیٹ کی رقم کے علاوہ دیگر بہت سی شرائط ووضاحتیں (Terms and

(Conditions) درج ہوتی ہیں جو بینک اور کلائنٹ کے درمیان طے پاتی ہیں مثلاً:

۱۔ مرابحہ کے اندر استعمال ہونے والی مختلف اصطلاحات (Terms) کی

(Definition) تعریف

۲۔ اس ٹرانزکشن کے اندر بینک اور کلائنٹ کی ذمہ داریاں (Liabilities) کیا کیا ہوں گی۔

۳۔ بینک یہ سامان کس رویت (نفع کی شرح) پر فروخت کریگا۔

۴۔ کلائنٹ اور بینک کی ترجیحات کیا کیا ہوں گی۔

۵۔ بینک اپنارسک کس طرح کو رکھے گا۔

۶۔ خریداری کس طرح ہوگی۔

۷۔ ادائیگی کا طریقہ کار (Mode of payment) کیا ہوگا یعنی یکمشت ادائیگی ہوگی یا قسطوں میں۔

۸۔ کلائنٹ کیا کیا حصہ (Collateral) فراہم کریگا۔

## تیسرا مرحلہ

**مطلوبہ سامان کا حصول:**

لمٹ منظور ہونے کے بعد مطلوبہ سامان کی خریداری کا مرحلہ آتا ہے، یہ خریداری تین طرح سے ہو سکتی ہے۔

۱۔ بینک براہ راست خود پلائر سے سامان خریدے۔

۲۔ بینک کلائنٹ کے علاوہ کسی اور شخص کو خریداری کا وکیل بنائے۔

۳۔ کلائنٹ ہی کو مطلوبہ سامان کی خریداری کا وکیل بنائے۔

آج کل عام طور پر بینک اپنے کلائنٹ ہی کو مطلوبہ چیز کی خریداری کا وکیل

بناتا ہے، اسی لئے لمٹ کی منظوری کے ساتھ ہی ایک ایجنٹ ایگر یمنٹ بھی کیا جاتا ہے جس پر فریقین کے دستخط ہوتے ہیں جس کی رو سے کلائنٹ بینک کی طرف سے آئندہ کی خریداری کا ولی (Agent) بن جاتا ہے چنانچہ اس ایجنٹ ایگر یمنٹ کی بنیاد پر کلائنٹ اپنا مطلوبہ سامان بازار سے خریدتا ہے۔ خریداری سے قبل ایک کاغذ جس کہتے ہیں اس میں خریداری کیلئے مطلوبہ سامان، اس کے ریٹ اور سپلائر کی وضاحت ہوتی ہے کلائنٹ اس کے ذریعے بینک کو مطلع کرتا ہے کہ وہ کونسا سامان خرید رہا ہے اور اس کی لاگت کتنی ہے اس ڈاکومنٹ کے ساتھ وہ سپلائر کی کوئی شکنی بھی بھیجتا ہے، بینک اسے منظور کر کے اسے خریداری کی اجازت دے دیتا ہے جس کی بنیاد پر وہ خریداری کرتا ہے۔

## چوتھا مرحلہ

### مراہجہ کا عقد:

کلائنٹ مطلوبہ سامان خریدنے اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد بینک کو اسکی اطلاع دیتا ہے کہ اس نے بینک کے ولی (Agent) ہونے کی حیثیت سے سامان خرید لیا ہے اس اطلاع دینے کو ڈیکلریشن (Declaratain) کہتے ہیں اسکے ساتھ وہ بینک کو پیشکش (Offer) کرتا ہے کہ وہ اسے یہ سامان جز ایگر یمنٹ میں طے شدہ شرائط (Conditions) کے مطابق اس قیمت پر فروخت کرے جو جز ایگر یمنٹ میں طے ہوئی تھیں (قیمت میں لاگت اور جز ایگر یمنٹ میں طے شدہ نفع کی شرح کو بنیاد بنا کر کل نفع کی رقم شامل ہوتی ہے) بینک اس کی پیشکش کو قبول (Accept) کر کے دستخط کر دیتا ہے۔ اگر بینک خود خریداری کرے یا کلائنٹ کے علاوہ کسی اور شخص کو

خریداری کا وکیل بنا کر مطلوبہ سامان خریدے تو پھر بینک کلائنٹ کو اطلاع دیگا کہ ہم نے مطلوبہ سامان خرید لیا ہے، اسکے ساتھ ہی بینک اسے سامان بیچنے کی آفر کریگا اور کلائنٹ اس آفر کو قبول (Accept) کریگا

اس ایجاد و قبول (Offer & Acceptance) سے پہلے تک وہ چیز بینک کی ملکیت میں رہتی ہے اور اس کا سارا ضمان (Risk) بھی بینک پر ہوتا ہے لیکن اس ایجاد و قبول کے بعد وہ چیز بینک کی ملکیت (Ownership) سے نکل کر کلائنٹ کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور مراجع کمکمل ہو جاتا ہے۔

## پانچواں مرحلہ

ادائیگی:

عام طور پر بینک یہ سامان سپلائر سے نقد پر خریدتا ہے چنانچہ جب کلائنٹ بینک کے ایجنت ہونے کی حیثیت سے مطلوبہ سامان خرید لیتا ہے تو بینک اس سپلائر کو فوراً قیمت کی ادائیگی کر دیتا ہے۔

اگرچہ مراجع کیلئے یہ ضروری نہیں کہ بینک یہ سامان کلائنٹ کو ادھار فروخت کرے بلکہ نقد (On spot payment) پر بھی فروخت کر سکتا ہے لیکن چونکہ کلائنٹ بینک سے فناس حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اسلئے عام طور پر کلائنٹ بینک سے یہ سامان ادھار پر (On deferred payment) خریدتا ہے اور بینک کو قیمت کی ادائیگی قسطوں کی شکل میں کرتا ہے یا مراجع کی مدت کے اختتام پر یکمشت مکمل ادائیگی کر دیتا ہے جو بھی صورت طے ہو، کلائنٹ اسی کے مطابق ادائیگی کا پابند ہوتا ہے۔



## تفصیلی جائزہ



## تفصیلی جائزہ

اب ہم گذشتہ صفحات پر مرا بح کی ذکر کی گئی تعریف اور اس کے طریقہ کار کا تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہیں۔

### لاگت کے تعین کی ضروری شرائط:

جیسا کہ پچھے گذر اکہ مرا بح لاگت + نفع پر کسی چیز کی بیع کا نام ہے لاگت سے مراد وہ رقم ہے جس کے بدلتے میں بینک کو وہ چیز حاصل ہوئی، صرف وہ قیمت (Price) مراد نہیں جس پر بینک نے سپلائر سے خریدی، چنانچہ لاگت کے اندر قیمت کے علاوہ وہ اخراجات (Expenses) بھی شامل کئے جاسکتے ہیں جو اس چیز کو حاصل کرنے میں براہ راست (Direct) برداشت کئے البتہ بالواسطہ (Acquire) اخراجات (Indirect expenses) شامل نہیں ہو سکتے۔

براہ راست اخراجات میں اس سامان کی پہلی مرتبہ خریداری سے لیکر کلاسٹ کے قبضہ میں آنے اور خرید لینے تک کے اخراجات شامل ہیں، جس میں نقل و حمل (Transportation) حفاظت (Warehouse) محاصل (Duties)، اور تکافل (انشروس) کے اخراجات شامل کئے جاسکتے ہیں لیکن وہ اخراجات جو اس سامان

پر براہ راست نہیں آتے جیسے ملازمین کی تنخوا ہیں، بھلی کے بل اور عمارت کا کرایہ وغیرہ، انہیں سامان کی لागت میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اصل لागت پر نفع معین کرتے وقت ان اخراجات کا لحاظ رکھا جاسکتا ہے۔

چونکہ مراجع کے اندر خریدے گئے سامان کی لागت بتانا ضروری ہے لہذا اگر کسی سامان کی لागت معلوم نہ ہو تو اس کو مراجع کے ذریعے آگے فروخت کرنا بھی جائز نہ ہوگا۔ (۱)

مثلاً بینک نے ایک بہت بڑی مشینری سولین کی لागت پر خریدی، تو اب اس کے اجزاء (Parts) کو الگ الگ مراجع کے طور پر نہیں بیچا جاسکتا کیونکہ اس میں یہ معین نہیں ہو سکتا کہ الگ الگ اجزاء پر کتنی لागت آئی۔ ہاں اگر پارٹس اس طرح خریدے ہوں کہ ہر ایک کی لागت معلوم ہو تو پھر انہیں الگ الگ مراجع کے ذریعے فروخت کیا جاسکتا ہے۔

اور اگر مراجع کے وقت سامان پر آنے والے براہ راست اخراجات (Direct expenses) میں سے کسی کا پتہ نہ چل سکے اور بعد میں اس کا علم ہو تو اسے بھی اس سامان کی لागت میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے عکس اگر بینک کو پلاٹ سے کوئی رعایت (Rebate) ملے جس کی وجہ سے سامان کی لागت کم ہو جائے تو کلاسٹ کو بھی رعایت (Rebate) دینا ہوگی۔

## پہلا مرحلہ

پہلے مرحلے میں ہونے والا بنیادی کام کلاسٹ کی مالی حیثیت کا جائزہ یعنی

(۱) ایسی صورت میں اگر چہ مراجع نہیں ہو سکتا لیکن مساودہ جائز ہے۔

Credit Assessment ہے، اس مرحلے پر جو معلومات ایک سودی بینک جمع کرتا ہے وہ ساری معلومات اسلامی بینک بھی شامل کر سکتا ہے، البتہ مرابحہ کی لمبٹ منظور کرنے کے لئے جو Credit Assessment کی رپورٹ تیار کی جائے، اس کے اندر درج ذیل باتوں کا شامل کرنا بھی اہم ہے۔

۱۔ جس ضرورت کے لئے کلائنٹ مرابحہ کی درخواست دے رہا ہے، آیا وہ بیشادی طور پر مرابحہ کی حدود میں آتی ہے یا نہیں؟ چنانچہ روان منصوبوں کی تمویل Raw Capital Finance (کیلئے مرابحہ استعمال کیا جاسکتا ہے، Material Receivable Finance) میں سے صرف خام مال (M)

ملازمین کی تnoxواہیں اس کے ذریعے سے فائز نہیں کی جاسکتی۔

۲۔ جس سامان (یا اشیاء) کی خریداری کے لئے مرابحہ کی درخواست کیجا رہی ہے، وہ جائز اور حلال ہونے کے ساتھ ساتھ کیا وہ اس نوعیت (Nature) کا ہے کہ اس میں مرابحہ کیا جاسکے لہذا اگر وہ چیز ایسی نوعیت کی نہیں تو اس میں مرابحہ نہیں ہو سکتا، مثلاً ایسی چیز کہ اس کا قبضہ اور ضمان بینک کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا جیسے بجلی اور گیس کا کنکشن کہ کلائنٹ انہیں استعمال کرے اور اس کے بلوں پر مرابحہ کر لے۔

۳۔ سامان کی خریداری اور اس کے استعمال کا دورانیہ (Cycle) اور وقت کیا ہے، اس نکتہ کو دیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بینک کو ابتداء سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کلائنٹ (Client) کو درحقیقت خریداری اور استعمال کب کرنا ہے، بعض اوقات یہ نہ جاننے کی وجہ سے مرابحہ صحیح طور پر عمل میں نہیں آتا، مثلاً کلائنٹ وقت آنے پر سامان خرید چکا ہوتا ہے یا اپنے قبضہ میں لاتے ہی بینک سے خریدنے سے قبل سامان استعمال کر لیتا ہے اور مرابحہ کی کارروائی بعد میں ہوتی ہے۔

۴۔ کلائنٹ کے کاروبار میں نقد کا بہاؤ (Cash Flow) کیا ہے، تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ وہ ادائیگی کا جو وقت (Maturity Period) طے کر رہا ہے اس وقت پر وہ واقعہ ادائیگی کے قابل ہوگا؟ یہ پہلو نہ دیکھنے کی وجہ سے بعض اوقات یہ نوبت آتی ہے کہ عملی مقررہ وقت پر ادائیگی کے قابل نہیں ہوتا جس کی بناء پر Roll Over کا مطالبہ کرتا ہے جو مرا بح میں ممکن نہیں ہے۔

۵۔ جن اشیاء کی خریداری کی درخواست کی جا رہی ہے ان کے بازار کے بارے میں بھی کچھ واقفیت مناسب ہے کہ یہ اشیاء کہاں دستیاب ہوتی ہیں ان کی عام قیمت کیا ہے وغیرہ وغیرہ تاکہ مرا بح کے غلط استعمال کا سد باب کیا جاسکے، بعض مرتبہ کلائنٹ کم قیمت کی چیز بینک سے مہنگے داموں پر خریدنے کے لئے مرا بح کے لئے آتا ہے درحقیقت اسے وہ چیز مطلوب نہیں ہوتی بلکہ نقدر قم مطلوب ہوتی ہے اور مرا بح کو نقد کے حصول کے لئے بطور ذریعہ استعمال کرنا مقصود ہوتا ہے۔

۶۔ جس سپلائر سے سامان خریدا جانا ہے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جائیں کہ وہ کون ہے، ایسا تو نہیں کہ اس کا کلائنٹ سے کوئی ایسا تعلق ہے جو مرا بح پر اثر انداز ہو (کون سے تعلق کی صورت میں سامان خریدنا جائز ہے اور کون سے تعلق میں جائز نہیں، اس کی تفصیل ایجنسی ایگریمنٹ کے ذیل میں آئیگی (ان شاء اللہ) ے۔ ان اشیاء کی خریداری میں ادائیگی کی کیا صورت ہوتی ہے، ادائیگی نقد ہوتی ہے یا ادھار پر یا سامان کی ڈیلوری سے بھی پہلے، اسی طرح فروخت کرنے والے تاجر کسی قسم کا کوئی (Rebate) دیتے ہیں یا نہیں، اور ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے وغیرہ۔

۸۔ وہ چیزیں جو اگر چہ حرام نہیں لیکن ناپسندیدہ اور مکروہ ہیں، اسلامی بینک کو ان میں مراجع کرنے سے بھی بچنا چاہئے جیسے سگریٹ کا مراجع، لہذا Credit Assessment میں اس بات کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے کہ مراجع کا موضوع (Subject) کوئی مکروہ اور ناپسندیدہ چیز تو نہیں۔

۹۔ عام طور پر بینکوں کے ذریعے ہونے والے مراجع میں کلاسٹ ادھار (On defferd payment) خریداری کرتا ہے اسلئے اس بات کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے کہ جس چیز کا مراجع ہو رہا ہے کیا اسے ادھار فروخت کرنا درست ہے لہذا اکنی اور سونا چاندی میں مراجع نہیں ہو سکتا۔  
مذکورہ بالا معلومات کے حاصل ہونے سے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کلاسٹ کو مراجع کی سہولت دی جائے یا نہ دی جائے۔

**Credit Proposal** تیار کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔  
عام طور پر اس کا کوئی باقاعدہ فارم یا ڈاکومنٹ نہیں ہوتا بلکہ بینک کا آر۔ ایم (Chief Relationship Manager) اسے تیار کرتا ہے چیف میجر (Head Manager) کے پاس منظوری کے لئے بھیجا ہے۔

بعض بینکوں کے پاس پہلے سے اس کا ایک فارم موجود ہوتا ہے، اس میں مطلوبہ معلومات درج کی جاتی ہیں اور منظوری کے لئے متعلقہ سربراہ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔

## دوسری مرحلہ

Credit Assessment کی روشنی میں اگر تمام پہلو قابل اطمینان ہوں تو کلائنٹ کی لمبٹ منظور کر لی جاتی ہے لمبٹ منظور کرانے والے کلائنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں۔

بعض کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک وسیع کار و بار چل رہا ہوتا ہے اور انہیں وقتاً فوتاً مختلف اشیاء مراد کے طور پر خریدنے کی ضرورت پیش آتی ہے ایسے کلائنٹ بینک سے ایک بڑی رقم مثلاً سو ملین کے مراد کی لمبٹ منظور کرالیتے ہیں۔

بعض کلائنٹ اپنی کسی وقت ضرورت کے لئے بینک کے پاس آتے ہیں اور اتنی ہی رقم کی لمبٹ منظور کراتے ہیں جتنی رقم کی خریداری مطلوب ہوتی ہے۔

دونوں طرح کی لمبٹ ایک جزو ایگریمنٹ کے ذریعہ منظور ہوتی ہے اسے ماسٹر اور Facility (۱) ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں۔

یہ ایگریمنٹ شریعہ بورڈ یا شریعہ ایڈ واائز سے منظور شدہ اور پہلے سے تیار شدہ حالت میں رکھا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ تمام شرائط ذکر کی جاتی ہیں، جنکی بنیاد پر کلائنٹ آئندہ چل کر مراد کی سہولت حاصل کرتا ہے اسی طرح ضمانت (Collaterals) سے متعلق امور بھی اسی میں طے کئے جاتے ہیں۔

یہاں اسکے بارے میں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ شرعی اعتبار سے اس ایگریمنٹ کی حیثیت صرف ایک باہمی مفہوم (Mutual Understanding) کی

(۱) Facility کے لفظی معنی ہیں سہولت، اسے Facility ایگریمنٹ اسلئے کہتے ہیں گویا اس ایگریمنٹ کے ذریعے بینک نے کلائنٹ کو یہ سہولت دی کہ وہ اتنی رقم کی حد تک بینک سے مراد کی بنیاد پر اشیاء خرید سکتا ہے۔

ہے کہ بینک اس بات پر راضی ہے کہ اگر کلاسٹ کو منظور شدہ لمحت کے اندر مراہج کی سہولت حاصل کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ اسے مطلوبہ سہولت فراہم کریگا۔

محض لمحت منظور ہونے سے مراہج وجود میں نہیں آتا بلکہ بینک اور کلاسٹ دونوں آزاد ہوتے ہیں کہ آئندہ مراہج کا معاملہ کریں یا نہ کریں۔

بینک کے نقطہ نظر سے کسی رقم کی لمحت منظور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلاسٹ ایک وقت میں اتنی ہی رقم کی حد تک مراہج کی سہولت حاصل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں البتہ اگر کلاسٹ اس لمحت کے اندر اندر خریداری کے دوران اداگی بھی کرتا رہے تو اس کی وجہ سے منظور شدہ رقم سے زائد رقم کا مراہج بھی حاصل کر سکتا ہے مثلاً ایک شخص نے سو ملین کی لمحت منظور کرائی اور ابھی اسی ملین کا مال خریدا جس میں بیس ملین ادا کر دیئے تو اب وہ اس لمحت کے ذریعے مزید چالیس ملین کا مال خرید سکتا ہے۔

### تیسرا مرحلہ

لمحت منظور ہونے کے بعد جب کلاسٹ کو مطلوبہ سامان کی ضرورت پڑتی ہے تو بینک اس سامان کو خرید کر اپنی ملکیت میں لاتا ہے پھر اس پر قبضہ کرنے کے بعد کلاسٹ کو فروخت کرتا ہے۔

اس مرحلے پر سامان خریدنے سے پہلے بینک کلاسٹ سے وعدہ لیتا ہے کہ وہ بعد میں بینک سے سامان ضرور خرید لے گا۔ یہ یک طرفہ وعدہ (Unilateral Promise) ہوتا ہے، جس کی رو سے کلاسٹ سامان خریدنے کا پابند ہو جاتا ہے۔

بہتر تو یہ ہے کہ بینک براہ راست وہ سامان خرید کر مراہج کی بنیاد پر فروخت کرے لیکن عام طور پر درج ذیل وجوہ کی بنیاد پر بینک مطلوبہ سامان خود نہیں خریدتا۔

۱۔ خود خریدنے کی صورت میں اس کے نیکس کا بوجھ بینک پر بھی پڑتا ہے جس کی وجہ سے مرابح کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے۔ (۱)

۲۔ عام طور پر بینک کے پاس اتنے ماہر افراد (Experts) نہیں ہوتے جو کلائنٹ کی مطلوبہ صفات و شرائط (Specifications & Conditions) کے مطابق سامان خرید سکیں۔

جس صورت میں بینک خود سامان نہیں خرید سکتا، وہاں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ کلائنٹ کے علاوہ کسی تیرے فرد کو سامان کی خریداری کا وکیل بنائے۔

اگر مذکورہ بالا دونوں صورتیں دشوار ہوں تو شرعاً اس کی بھی گنجائش ہے کہ بینک اسی کلائنٹ کو وکیل بنا کر خریداری کرے، اس مقصد کے لئے بینک اور کلائنٹ کے درمیان ایک اچھنسی ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں بینک سامان سے متعلق ضروری تفصیلات درج کر کے کلائنٹ کو اس کی خریداری کا وکیل نامزد کرتا ہے۔

(۱) کسی چیز کی خرید و فروخت یا رقم کی فائنانس پر لگنے والے نیکس عام طور پر تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ا جزء سیلز نیکس (General sales Tax G.S.T)۔ ۲۔ اوہ ہولڈنگ نیکس (With Holding tax W.H.T)۔ ۳۔ کم از کم نیکس (Minimum tax) بینک برآہ راست خریداری کرنے کے بعد جب وہ سامان کلائنٹ کو فروخت کرے تو جزوی سیلز نیکس اس اعتبار سے واپس (Refund) ہو سکتا ہے کہ پلاٹر جتنا نیکس بینک کو سامان بیچتے ہوئے کرتا ہے، بینک اتنا بھی نیکس اپنے کلائنٹ کو سامان بیچتے ہوئے کات لے گا، لیکن موجودہ قوانین کے مطابق دوسرا شیں (یعنی T.W.H.T) بہر حال بینک کے ذمہ ہوتا ہے اور تیرے نیکس کی شرح اسلامی بینک کو کنویشنل بینک کے مقابلے میں زیادہ پڑتی ہے اس کا ریٹ تو ۰.۵% ہوتا ہے لیکن یہ ریٹ اسلامی بینک کی کل فروخت پر بھر کو نیشنل بینک کی صرف حاصل شدہ سود کی رقم پر گلتا ہے مثلاً اگر اسلامی بینک دولاٹھروپے کا سامان بیچتا ایک ہزار روپیہ نیکس ادا کرنا ہوگا لیکن کنویشنل بینک کو دولاٹھروپے پر مثلاً میں ہزار روپے سود موصول ہوا تو اس میں ہزار کا ۰.۵% یعنی صرف سو روپے نیکس ادا کرنا ہوگا، ظاہر ہے کہ ان اضافی نیکسوں کی ادائیگی میں سے مرابح کا ریٹ بڑھ جائے گا۔

### ایجنسی ایگر یمنٹ میں قابل لحاظ پہلو:

اگرچہ بینک کے لئے اسی کلائنٹ کو خریداری کا وکیل بنانے کی گنجائش ہے لیکن ایسی صورت میں درج ذیل پہلوؤں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

۱۔ کلائنٹ اس رقم سے واقعہ کوئی چیز خرید رہا ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ یہ رقم مرا بح کے نام پر حاصل کر کے اسے اپنے ملازم میں کی تنخواہ اور دیگر مصارف میں خرچ کر رہا ہو۔

۲۔ کلائنٹ بینک کا ایجنت بن کر جو چیز خریدنے جا رہا ہے کیا پہلے سے ہی اس کا مالک تو نہیں، یا اس کی خریداری کا معاملہ مکمل تو نہیں کر چکا؟ لہذا

الف: اگر وہ پہلے سے ہی اس کا مالک ہے اور وہ چیز پہلے سے اس کے گودام وغیرہ میں رکھی ہوئی ہے، اب وہ یہ سامان بینک کو بیچ کر دوبارہ خریدنا چاہتا ہے تو یہ صورت بیع "عینہ" (Buy Back) میں داخل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔

ب: اگر وہ مطلوبہ سامان سپلائر سے پہلے ہی خرید چکا ہے تو بھی مرا بح نہیں ہو سکتا۔

اس دوسری صورت کی وضاحت یہ ہے کہ عام طور پر کلائنٹ بینک کے پاس آنے سے قبل سپلائر سے کچھ نہ کچھ گفتگو (Commitment) کر کے آتا ہے، بعض مرتبہ یہ گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے کلائنٹ اور سپلائر کے درمیان بیع منعقد ہو جاتی ہے مثلاً کلائنٹ نے زبانی کہا کہ میں نے فلاں سامان اتنی قیمت کے بد لے میں خریدا اور سپلائر نے کہا کہ میں نے مطلوبہ قیمت پر بیچا (یا یہ عمل کاغذات پر تحریر کی شکل میں وجود میں آیا) تو ایسی صورت میں کلائنٹ سامان کا مالک بن گیا، اب اس میں مرا بح نہیں ہو سکتا۔

واضح رہے کہ محض ایجاد و قبول (Offer and Acceptance) ہو جانے سے بع کامل ہو جاتی ہے خواہ یہ ایجاد و قبول زبانی ہو یا تحریری، بعض کلائنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ابھی تک مطلوبہ سامان ان کے قبضے میں نہیں آیا یا انہوں نے اس کی ادائیگی نہیں کی اسلئے وہ اس سامان کے مالک نہیں ہوئے، یہ خیال درست نہیں، کسی چیز کا مالک ہونے کے لئے اس کی قیمت کی ادائیگی کرنا یا اس پر قبضہ کرنا ہرگز ضروری نہیں، صرف ایجاد و قبول سے ملکیت منتقل ہو جاتی ہے البتہ خریداری کے بعد وہ سامان آگے بچنے کے لئے اس پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔

۳۔ کلائنٹ بسا واقعات پلائر کی طرف سے دیا گیا نرخ نامہ (Quotation) بینک کو دکھاتا ہے اسی کوٹیشن کی بنیاد پر بینک خریداری کرتا ہے، محض اس کوٹیشن کا لانا ایجاد (Offer) نہیں، (البتہ اگر اس پر صراحت ہو کہ یہ کوٹیشن ایجاد (Offer) کے طور پر بھیجی جا رہی ہے تو پھر یہ آفر سمجھی جائیگی)

۴۔ اس بات کا اطمینان کرنا بھی ضروری ہے کہ پلائر کلائنٹ کے علاوہ کوئی اور شخص یا ادارہ ہو، وہی یا اس کا ذیلی ادارہ نہ ہو اور نہ ہی ایسا ادارہ ہو جس کا وہ خود ایجنت ہے۔

اس بات کو تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ کاروبار کی عام طور پر تین صورتیں ہوتی ہیں:

الف: پروپرٹر شپ (Proprietorship) اس میں ایک ہی شخص تنہا اپنا سارا کاروبار چلا رہا ہوتا ہے۔

ب: پارٹنر شپ (Partnership) اس میں دو یا دو سے زائد افراد شرکت کی بنیاد پر مل کر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں بعض مرتبہ یہ کسی فیکٹری کے مالک ہوتے ہیں

اور اسے مل کر چلاتے ہیں۔

ج: کمپنی (Company) اس میں سینکڑوں اور بعض دفعہ ہزاروں افراد مل کر کاروبار کرتے ہیں۔

پہلی صورت میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوالگ الگ کاروبار کر رہا ہوتا ہے مثلاً اس کی فیکٹری A میں جوتے تیار ہوتے ہیں اور فیکٹری B میں گارمنٹس کا سامان تیار ہوتا ہے، اسے نقد رقم کی ضرورت پیش آئی جس کے لئے وہ بینک سے ایسی مشینری خریدنے کے لئے آیا جو گارمنٹس فیکٹری میں ہے اور خود اس حیثیت سے آیا کہ وہ جو توں والی فیکٹری کا مالک ہے، تو یہ صورت جائز نہیں کیونکہ مطلوبہ سامان کا وہ پہلے سے مالک ہے۔

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بعض مرتبہ کچھ بھائی مل کر کئی فیکٹریاں چلا رہے ہو۔ تھیں ایسی صورت میں اگر فیکٹری مالکان الگ الگ ہیں مثلاً ہر بھائی کے نام ایک فیکٹری ہے اور وہی ہر طرح سے اس کا ذمہ دار ہے تو پھر ایک بھائی دوسرے بھائی کی فیکٹری کا سامان بذریعہ بینک مراجع پر خرید سکتا ہے لیکن اگر وہ کاروبار مشترک ہے تو وہ پارٹنر شپ میں آ جاتا ہے۔

پارٹنر شپ کی صورت میں کوئی فریق مشترک کاروبار کی کوئی چیز بذریعہ بینک مراجع کے طور پر اس وقت خرید سکتا ہے جب کہ اس کا حصہ اس کاروبار میں ۳۳% سے کم ہو۔

بعض مرتبہ ایک بڑی فیکٹری یا کمپنی کام کر رہی ہوتی ہے اس کے مالکان یا ڈائریکٹرز اسی کی کسی ذیلی کمپنی کے بھی مالک یا حصہ دار ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اس ذیلی کمپنی سے مطلوبہ سامان خریدنے کیلئے شرط یہ ہے کہ بڑی فیکٹری یا کمپنی اس ذیلی کمپنی کے ایک تھائی سے کم کی مالک ہو۔ اور کسی فیکٹری کا ملازم اسی فیکٹری سے اسی صورت میں

سامان لینے کا وکیل بن سکتا ہے جبکہ اس میں اس کی ملکیت ۳۳% سے کم ہو۔

۵۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کلاسٹ کسی گذشتہ مرابحہ کی واجب الاداء رقم بروقت ادا نہیں کر سکتا تو وہ بینک سے درخواست کرتا ہے کہ اسے یہی سامان دوبارہ مرابحہ کے ذریعے فروخت کر دیا جائے (اسے رول اوور (Rollover) کہتے ہیں) ایسا کرنا بھی قطعاً جائز نہیں کیونکہ کلاسٹ جس سامان کو خریدنے جا رہا ہے، وہ پہلے سے اس کا مالک ہے۔

مرابحہ کے اندر درج بالا تمام شرائط کی پابندی ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا خیال نہ رکھنے سے عمل ناجائز ہو سکتا ہے۔

### کلاسٹ کی طرف سے سپلائر کا متعین ہونا:

عام طور پر کلاسٹ جب بینک کے پاس آتا ہے تو اپنا سپلائر بھی متعین کر کے آتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بینک اسی سپلائر سے مطلوبہ سامان خرید کر اسے فروخت کرے۔ ایسا کرنے کی گنجائش ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس طرح کلاسٹ کو اس کی مطلوبہ صفات (Specifications) کے مطابق چیزیں جاتی ہے۔

ایسی صورت میں بعض اوقات بینک کلاسٹ سے اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ اس کا متعین کردہ سپلائر مطلوبہ صفات و شرائط کے مطابق سامان فراہم کرے گا، اور اگر یہ سامان مطلوبہ صفات کے مطابق نہ ہوا تو اس کی ذمہ داری کلاسٹ پر ہوگی بینک اس کا ذمہ دار نہ ہوگا، اگر اس مرانچے میں سپلائر کو کل قیمت یا اس کے کچھ حصہ کی پیشگی ادا یگی (Advance Payment) کی گئی ہو تو کلاسٹ یہ ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے کہ مطلوبہ سامان حاصل نہ ہونے کی صورت میں وہ یہ رقم بینک کو واپس کرے گا، اس مقصد کے لئے وہ بینک کو کچھ ضمانت (Collateral) فراہم کرتا ہے۔ جس کیلئے گارنٹی

ڈاکومٹ پر دستخط کرائے جاتے ہیں۔

یہ گارنٹی ڈاکومینٹ بھی پہلے سے تبارشہ ہوتا ہے اور کلائنٹ کی طرف سے اس پر دستخط ہوتے ہیں۔

کلائنٹ سے اس کے معین کردہ سپلائر کے بارے میں گارنٹی لینا جائز ہے بشرطیکہ وہ یہ گارنٹی اپنی ذاتی خصیت (Personal Capacity) کے اعتبار سے دے، بینک کے ایجنت ہونے کی حیثیت سے نہیں، اسلئے کہ ایجنت کی حیثیت تو امین (Trustee) کی ہے، اس سے ضمانت (Guarantee) کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا البتہ وہ اپنی ذاتی حیثیت سے اس کی گارنٹی دے سکتا ہے۔

یہ کیسے معلوم ہو کہ اس نے یہ گارنٹی ذاتی حیثیت سے دی ہے۔ اس کو جاننے کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے بعد میں بینک اور کلائنٹ کے درمیان مراد کا عقد نہ ہوا اور پھر بھی یہ گارنٹی اپنی جگہ قائم رہے تو سمجھا جائیگا یہ گارنٹی کلائنٹ نے اپنی ذاتی حیثیت میں دی ہے، نہ کہ ایجنت ہونے کی حیثیت سے لیکن اگر مراد کا عقد نہ ہونے کی صورت میں گارنٹی بھی ختم ہو جائے تو یہ سمجھا جائیگا کہ یہ گارنٹی ایجنت ہونے کی حیثیت سے دی گئی ہے۔

### وکالت کی نیت:

اگر کلائنٹ سپلائر سے صرف وہی مال اتنی ہی مقدار میں خرید رہا ہے، جتنی مقتدار کا مراد کے وہ بینک سے کر رہا ہے یا اس سے بھی کم مقدار میں خرید رہا ہے تو جب وہ یہ سامان سپلائر سے خریدے گا تو یہی سمجھا جائیگا کہ اصل خریدار بینک ہے اور یہ اس کے وکیل ہونے کی حیثیت سے خرید رہا ہے، لیکن اگر وہ اس کے متصاد (Opposite) نیت کر لیتا ہے مثلاً یہ نیت کرتا ہے کہ اگر چہ میرے پاس بینک کی طرف سے منظور شدہ لمحہ ہے لیکن چونکہ فی الحال مجھے اتنی مخصوص مقدار کی ضرورت ہے اور اس حد تک رقم کا انتظام میرے

پاس ہے تو میں اتنی مقدار بینک کیلئے خریدنے کے بجائے براہ راست اپنے لئے خرید لیتا ہوں تو ایسی صورت میں یہ خریداری اسی کیلئے ہوگی، اور کلاسٹ براؤ راست اس کامالک بن جائیگا۔

اگر اس نے کئی اسلامی بینکوں سے کسی چیز کے لئے مراد کی سہولت حاصل کر رکھی ہے مثلاً ایک شخص کپاس (Cotton) کا کار و بار کرتا ہے اور اس نے مختلف اسلامی بینکوں سے مختلف رقوم کی لمبٹ منظور کروائی ہوئی ہے تو اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ وہ یہ تعین کرے کہ کتنا سامان کونے بینک کے وکیل ہونے کی حیثیت سے خرید رہا ہے، یہ تعین دو طرح سے ہو سکتی ہے۔

- ۱۔ ہر بینک کا سامان دوسرے بینک کے سامان سے بالکل الگ اور نمایاں ہو۔
- ۲۔ فیصد کے اعتبار سے تعین کی گئی ہوجس سے معلوم ہو جائے کہ کونے بینک کا سامان کتنے فی صد ہے۔

جب تک کلاسٹ بینک سے عملاء مراد نہ کر لے، اس وقت تک یہ تعین ضروری ہے تاکہ خدا نخواستہ اگر کسی ناگہانی آفت (Due to an act of God) سے کچھ سامان ہلاک ہو جائے تو واضح طور پر چلے کہ کون سے بینک کا کتنا سامان ہلاک ہوا ہے۔

بہت سی تجارتی کمپنیوں میں پر چیزینگ ڈیپارٹمنٹ (Purchasing Department) اور فائنس ڈیپارٹمنٹ (Finance Department) الگ ہوتے ہیں فائنس ڈیپارٹمنٹ بینک سے لمبٹ منظور کرتا ہے جبکہ پر چیزینگ ڈیپارٹمنٹ مطلوبہ سامان کی خریداری کرتا ہے، ایسی صورت میں یہ ضروری ہے کہ اگر یہ کمپنی بینک کیلئے خریداری کر رہی ہے تو خریداری سے پہلے فائنس ڈیپارٹمنٹ، پر چیزینگ ڈیپارٹمنٹ کو بتائے کہ فلاں چیز کی اتنی مقدار کی خریداری فلاں اسلامی بینک کے وکیل ہونے کی حیثیت سے کی جائے۔

اگر پر چیز یونگ ڈیپارٹمنٹ نے شروع میں کمپنی کیلئے کوئی سامان خرید لیا اور اس میں بینک کے وکیل ہونے کی نیت نہیں کی تو یہ سامان براہ راست اس کمپنی کی ملکیت میں آ جائیگا اور اس سامان میں اسلامی بینک سے مراجع نہیں ہو سکتا۔

### مشترکہ خریداری:

بعض مرتبہ بینک اور کلاسٹ مل کر مشترکہ خریداری کرتے ہیں ایسا اُس وقت ہوتا ہے جب کلاسٹ کے مطلوبہ سامان کی قیمت اس کی منظور شدہ لمب سے زیادہ ہو یا کچھ رقم کلاسٹ کے پاس موجود جس کی وجہ سے وہ پوری خریداری کے لئے مراجع فناں حاصل نہیں کرنا چاہتا۔

عام حالات میں ایسی مشترکہ خریداری سے بچنا چاہئے کیونکہ اس کی وجہ سے مراجع کے غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے اور بعض مرتبہ یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کتنے میں خریدی گئی تاہم ضرورت کے وقت ایسا کیا جاسکتا ہے۔ ایسی صورت میں شروع ہی سے بینک اور کلاسٹ دونوں پر واضح ہونا ضروری ہے کہ کتنے فیصد کی خریداری بینک کے وکیل ہونے کی حیثیت سے کی جائیگی اور کتنے فیصد علماں کی خریداری کلاسٹ اپنی طرف سے کریگا تاکہ فریقین اسی اعتبار سے مطلوبہ سامان کا رسک (Risk) برداشت کریں پھر عملاً مراجع کرتے وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بینک کی رقم سے جتنا سامان خریدار گیا ہے اسے الگ کر کے اس کا مراجع کیا جائے یا الگ نہ کیا جائے اور فیصد کے لحاظ سے مراجع کر لیا جائے، دونوں صورتیں جائز ہیں البتہ پہلی صورت بہتر ہے۔

## خریداری کا جائزہ:

جب کلائنٹ کو ایجنت بنا کر خریداری کی جائے تو اس میں بعض مرتبہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ نے کوئی حقیقی خریداری نہ کی ہو بلکہ اپنی کسی ضرورت کیلئے بینک سے رقم حاصل کرنے کیلئے مرابحہ کو ذریعہ بنایا ہو، اس کیلئے ضروری ہے کہ بینک کلائنٹ سے تازہ خریداری (Fresh Purchase) کی انواس (Invoice) حاصل کرے۔

خریداری کی انواس لینے کی مدت کم سے کم ہونی چاہئے نیز بینک اپنے کسی آدمی کو بھیج کر وقتاً وقاً فریکل وریفیکیشن (Physical Verification) بھی کرایا کرے کہ مال واقعی آیا ہے یا نہیں؟

بعض کلائنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں ایک مخصوص رقم دے دی جائے، وہ اس سے ایک مدت تک خریداری کرتے رہیں گے پھر کچھ عرصہ بعد ان اشیاء کی انواسز (Invoices) بینک کے سامنے پہنچ کر کے ان کا مرابحہ کر لیں گے۔

اس طرح کرنا ہرگز درست نہیں کیونکہ اس میں اس بات کا اندریشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ مطلوبہ اشیاء کی خریداری کے بجائے اس رقم کو دیگر مصارف میں خرچ کر دے یا سامان خریدنے کے بعد اسے آگے بیخنے با استعمال کر کے ختم کر دینے کے بعد بینک کے پاس مرابحہ کرنے کیلئے آئے۔

ظاہر ہے کہ ایسی صورتوں میں مرابحہ نہیں ہو سکتا، البتہ اگر کلائنٹ کا کاروبار اس نوعیت کا ہو کہ اس میں تیز رفتاری سے ٹرانزکشنز ہو رہی ہوں اور ادا یگلی کی فوری ضرورت ہو تو درج ذیل شرائط کے ساتھ رقم اس کے اکاؤنٹ میں رکھوائی جا سکتی ہے۔

### شرائط:

۱۔ کافٹ میں رقم رکھوںے کی مدت کم سے کم ہو، بہتر یہ ہے کہ ایک ہفتہ سے زیادہ نہ ہو۔

۲۔ Payorder براہ راست سپلائر کے نام بنایا جائے۔

۳۔ اس بات کی تحقیق کی جائے کہ کلاںٹ جو (Invoice) دے رہا ہے، وہ

Fresh انوائس ہے یا نہیں؟

۴۔ Invoice معاملے کے بعد جلد از جلد لی جائے اور پھر سامان کلاںٹ کے قبضہ میں آنے کے بعد مراجح کیا جائے۔

۵۔ سامان کو استعمال کر کے ختم کرنے یا اسے آگے بیچنے سے پہلے بینک سے مراجح کر لیا جائے۔

درج بالا جائزہ تو اس اعتبار سے ہے کہ کیا بینک کی رقم سے واقعہ خریداری ہوئی تھی یا نہیں، اس کے علاوہ ایک اور جائزہ اس بات کا لینا بھی ضروری ہے کہ کلاںٹ کا سپلائر کے ساتھ خریداری کا جو عقد ہوا، وہ درست تھا یا نہیں۔

اس جائزے کے اندر درج ذیل باتوں کا دیکھنا ضروری ہے:

۱۔ کیا خریدے ہوئے سامان کی مقدار (Quantity) متعین تھی؟ لہذا خریداری کی انوائس میں مقدار کی چیکنگ ضروری ہے۔

۲۔ خریداری فوری تھی یا نہیں؟ لہذا اگر کلاںٹ نے فارورڈ سیل (Forward Sale) کی بنیاد پر سامان خریدا تو اس میں مراجح نہیں ہو سکتا۔

۳۔ کیا خریدا ہوا سامان متعین (Identified) تھا، اگر کلاںٹ نے سپلائر سے سامان خریدا لیکن اسکی تعین نہیں ہوئی، بلکہ سپلائر کے گودام ہی میں رکھا رہا تو اسی حالت میں اس کا مراجح نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ضروری ہے کہ خریدا ہوا مال سپلائر کے مال

سے الگ ہو البتہ اگر کسی گودام میں سیریل نمبروں کے ذریعے اس خریدے گئے مال کو دوسرے مال سے ممتاز کر لیا گیا ہو تو یہ تعین بھی معاملے کے صحیح ہونے کیلئے کافی ہے۔

۴۔ اگر سامان کی مختلف کیفگریز (Categories) ہوں تو پھر ہر کیفگری کا تعین ہوا ہے یا نہیں؟ انوائس کے اندر اس کی وضاحت ہونا بھی ضروری ہے مثلاً کپڑے کا مرابحہ ہوا تو اس میں اس کی وضاحت ہونا ضروری ہے کہ کوئی قسم کا کپڑا خریدا گیا۔

۵۔ کلائنٹ نے سپلائر سے جو مال خریدا، کیا سپلائر اس کا مالک بن کر اس پر قبضہ کر چکا تھا اس بات کا جائزہ لینا اس لئے ضروری ہے کہ بعض مرتبہ سپلائر کے پاس سامان موجود نہیں ہوتا لیکن وہ اس خیال سے نجع دیتا ہے کہ بعد میں مارکیٹ سے خرید کر دے دیگا ایسا کرنا جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں وہ ایسا سامان نجع رہا ہوتا ہے جس کا وہ مالک نہیں ہوتا یا جو اس کے قبضے میں نہیں ہوتا۔

## چوتھا مرحلہ

مرابحہ کا عقد:

کلائنٹ بینک کے ایجنت ہونے کی حیثیت سے خریداری کرنے کے بعد بینک کو اس خریداری کی اطلاع دیتا ہے۔

اسے ڈیکلریشن (Declaration) دینا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ بینک کو یہ آفر (Offer) کرتا ہے کہ جزو ایگر یمنٹ میں طے شدہ شرائط کے مطابق بینک اسے یہ سامان فروخت کر دے، جب بینک اس آفر کو قبول (Accept) کر لیتا ہے تو ایجاد و قبول (Offer and Acceptance) کے پائے جانے کی وجہ سے مرابحہ کا عقد وجود میں آ جاتا ہے جس کے نتیجے میں کلائنٹ مطلوبہ سامان کا مالک بن

جاتا ہے اور اس سامان کی قیمت کی ادائیگی اس کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے۔

### قبضہ کرنا ضروری ہے:

شریعت کا طے شدہ اصول یہ ہے کہ کسی سامان کو خریدنے کے بعد اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے آگے فروخت کرنا جائز نہیں، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ وکیل (ایجنت) کا قبضہ موکل (سامان کے اصل مالک) کا قبضہ سمجھا جاتا ہے۔

ان دو اصولوں کی روشنی میں یہ واضح ہوا کہ بینک کیلئے یہ سامان آگے کلاسٹ کو فروخت کرنا اس وقت جائز ہوگا جب وہ خود یا اس کا ایجنت اس پر عملایا جسی قبضہ کر لے، اگر بینک نے خود یا ایجنت کے قبضہ کرنے سے پہلے ہی یہ سامان کلاسٹ کو فروخت کر دیا تو یہ ٹرانزیکشن ناجائز ہو جائیگی۔

### ایک سوال اور اس کا جواب:

یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مطلوبہ سامان کو مرابحہ کی بنیاد پر فروخت کرنے سے پہلے اس پر قبضہ کرنا کیوں ضروری ہے اور قبضہ نہ کرنے سے ٹرانزیکشن کیوں ناجائز ہو جاتی ہے؟

جواب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی سامان کو خریدنے کے بعد خریدار جب تک اس پر قبضہ نہیں کرتا، اس وقت وہ چیز اس کی ضمان (Risk) میں نہیں آتی، لہذا قبضہ سے پہلے اگر وہ چیز ہلاک ہو جائے تو وہ نقصان اس کا نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا ہوتا ہے اسے بذریعہ مثال یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلاً زید نے بکر سے صابن کے ایک سو پیکٹ خریدے، ابھی وہ سامان زید کی دوکان میں رکھا ہوا تھا کہ کسی ناگہانی آفت سے ہلاک ہو گیا یا خراب ہو گیا تو یہ نقصان بکر کا ہو گا، خریدار (زید) کا نہیں البتہ اگر زید

اس پر قبضہ کر لیتا اور پھر یہ سامان ہلاک ہوتا تو یہ زید کا نقصان سمجھا جاتا۔

اس وضاحت کے بعد اب انھائے جانے والے سوال کا جواب یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں کسی شخص کیلئے کسی چیز کا نفع حاصل کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ شخص اس سامان کے نقصان کے خطرے (Risk) کو برداشت کرنے کیلئے تیار نہ ہو۔ (۱)

اور گذشتہ وضاحت سے معلوم ہوا کہ کسی سامان کے نقصان کا خطرہ اس وقت تک خریدار کی طرف منتقل نہیں ہوتا جب تک خریدار اس پر قبضہ نہ کر لے، اس لئے بینک کے لئے لازم ہے کہ وہ مطلوبہ سامان آگے فروخت کرنے سے پہلے اس پر خود یا بذریعہ ایجٹ قبضہ کرے تاکہ کلاسٹ کو فروخت کرنے سے اس سامان کے نقصان یا ہلاک ہونے کا خطرہ بینک برداشت کرے یعنی اگر قبضہ کے بعد اور کلاسٹ کو فروخت کرنے سے پہلے وہ سامان ہلاک ہو جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ نقصان بینک کا ہو، سپلائر یا کلاسٹ کا نہ ہو۔

### مراہج اور سودی ٹرانزیکشن میں بنیادی فرق:

یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جس کی بنیاد پر بیع (sale) کے جائز اور سود کے حرام ہونے کی وجہ سے سمجھی جاسکتی ہے، سود کے اندر قرض دینے والا شخص یا ادارہ کوئی رسک (Risk) برداشت نہیں کرتا جبکہ بیع (sale) کے اندر بیچنے والا شخص اپنے سامان کا رسک برداشت کرتا ہے مثلاً زید اگر سوروپے کسی کو قرض دیکر اس سے ایک ماہ بعد ایک سود ک روپے وصول کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے کیونکہ اس نے سوروپے کا کوئی رسک برداشت نہیں کیا لیکن اگر وہ سوروپے کے پھل خرید کر ۱۰۰ روپے میں فروخت کرتا ہے تو

(۱) اس اصول کو "لغنم بالغمرم" کے لفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ملاحظہ فرمائیے: رذاختر، کتاب البویع، مطلب فی توحیم لغنم بالغمرم، الحدایۃ، کتب ابوالحسن۔

یہ جائز ہے کیونکہ اس صورت میں وہ ان بھلوں کے خراب یا ضائع ہونے کے نقصان کا خطرہ برداشت کر رہا ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ کنپیشنس بینک قرض دیکر اس پر جو اضافی رقم حاصل کرتا ہے چونکہ وہ اس کا کوئی رسک (Risk) برداشت نہیں کرتا، اس لئے وہ ناجائز ہے جبکہ مراجع کی بیع میں بینک سامان کے ہلاک یا ضائع ہونے کا خطرہ مول لیتا ہے اسلئے یہ جائز ہے۔

اس تفصیل پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ قرض کی صورت میں بھی تو بینک رسک برداشت کرتا ہے کیونکہ اگر چہ مقرض کے ذمہ اصل رقم بعد سود کی واپسی ضروری ہوتی ہے لیکن اس بات کا خطرہ بھی رہتا ہے کہ کہیں کلائنٹ ڈیفائلٹ نہ کر جائے اور بینک کا سرمایہ ڈوب جائے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کلائنٹ کے ڈیفائلٹ (Default) ہونے کا خطرہ تو مراجع کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کلائنٹ مراجع کی بنیاد پر سامان خریدنے کے بعد قیمت کی ادائیگی نہ کرے لیکن مراجع کا جائز ہونا اس رسک کی وجہ سے نہیں بلکہ اس رسک کی وجہ سے ہے جو قبضہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، گویا شریعت میں فرقہ مخالف کے ڈیفائلٹ کرنے کا رسک (Risk) معتبر نہیں، کیونکہ اس طرح تو کوئی عقد بھی ناجائز نہیں ہو گا اسلئے کہ یہ رسک تو ہر رازکش میں موجود ہوتا ہے بلکہ شریعت کی نگاہ میں وہ رسک معتبر ہے جو عقد کی ذات سے متعلق ہو جبکہ ڈیفائلٹ کا رسک عقد مکمل ہونے کے بعد وجود میں آتا ہے۔

**قبضہ کب سمجھا جائیگا:**

شریعی نقطہ نظر سے کسی چیز پر قبضہ کا پایا جانا اس وقت سمجھا جاتا ہے، جب درج ذیل دو شرائط پائی جائیں۔

الف: تخلیہ یعنی بچنے والا شخص سامان اپنے استعمال سے نکال کر اس طرح خریدار کے حوالے کر دے کہ اب سامان اور خریدار کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو۔  
ب: خریدار کو اس چیز پر تصرف کرنے (یعنی اسے اپنے استعمال میں لانے) کا پورا اختیار ہو۔

پھر قبضے (Possession) کی دو قسمیں ہیں:-

۱۔ حسی قبضہ (Physical Possession)

۲۔ حکمی قبضہ (Constructive Possession)

حسی قبضے (Physical Possession) کا مطلب یہ ہے کہ سامان حسی طور پر خریدار کے پاس آجائے مثلاً وہ انھا کر اپنے گودام میں ڈال دے یا فروخت کنندہ کے گودام سے نکال کر باہر لے آئے، اور اگر یہ کام خریدار کا وکیل کرے تو بھی خریدار ہی کا حسی قبضہ سمجھا جائیگا۔

اور حکمی قبضہ (Constructive Possession) یہ ہے کہ سامان فروخت کنندہ کے مال سے ممتاز اور نمایاں ہو جائے اور اس کے کاغذات خریدار کے حوالے کر دیئے جائیں، مثلاً اگر ایک شخص کسی فیکٹری سے ایک ہزار بوری گندم خریدتا ہے فیکٹری والے ان بوریوں پر ایک سے لیکر ہزار تک نمبر ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کا ڈبلیوری آرڈر خریدار کے حوالے کرتے ہیں جس سے یہ ہزار بوریاں فیکٹری کی دیگر گندم سے نمایاں ہو جاتی ہیں تو یوں سمجھا جائیگا کہ خریدار کا اس پر حکمی قبضہ ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اگر یہ گندم کسی ناگہانی آفت سے ہلاک ہو گئی تو یہ خریدار کا نقصان ہو گا نہ کہ فیکٹری کا۔ (۱)

(۱) لیکن اگر بوریوں پر نمبر مگ نہ ہو تو پھر یہ ڈبلیوری آرڈر (D.O.) قبضہ شمارنے ہو گا۔

اسی طرح مال امپورٹ کرنے کی صورت میں پہنچ ہونے کے بعد بل آف لیڈنگ کا وصول ہونا حکمی قبضہ سمجھا جائیگا خواہ مال ابھی تک پورٹ پر نہ اترتا ہو، اسلئے بینک اسے آگے فروخت کر سکتا ہے۔

قبضہ حاصل کرنے کا مقصد (یعنی سامان کے ہلاک یا اس کے نقصان کا خطرہ برداشت کرنا) جس طرح حصی قبضے (Physical Possession) سے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح حکمی قبضے (Constructive Possession) سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، لہذا اگر کسی جگہ حصی قبضہ حاصل کرنے میں دشواری ہو تو وہاں حکمی قبضہ کر کے بھی سامان آگے فروخت کیا جا سکتا ہے، البتہ یہ یاد رہے کہ گذشتہ جن دو شرائط کا حصی قبضے میں پایا جانا ضروری ہے حکمی قبضے میں بھی انہی دو شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔

**کلاسٹ کے ذریعے خریداری میں چند مزید احتیاطیں:**

کلاسٹ بینک کے ایجنت ہونے کی حیثیت سے سامان خریدنے اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد جب تک بینک سے خریدنہ لے، اس وقت تک اس سامان کا مالک بینک ہے نہ کہ کلاسٹ، اسلئے اس مرحلے پر کلاسٹ ۱۔ اس سامان کو آگے فروخت نہیں کر سکتا۔

۲۔ اسے استعمال کر کے ختم (Consume) نہیں کر سکتا۔

لہذا اگر اس نے سامان خرید کر آگے فروخت کر دیا یا استعمال کر کے ختم کر دیا تو اب بینک سے اس کا مراہج نہیں ہو سکتا۔

**مراہج کے عقد میں قابل لحاظ پہلو:**

مطلوبہ سامان پر قبضہ کرنے اور بینک کو اس کی ڈیکلریشن دینے کے بعد اگلا

مرحلہ بینک سے اس سامان کی خریداری کا ہے عام طور پر کلاسٹ جب بینک کوڈیکٹریشن دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی سامان خریدنے کی آفر (Offer) بھی کرتا ہے، جب بینک اس آفر کو قبول (Accept) کر لیتا ہے تو مرادی مکمل ہو جاتا ہے۔

یہاں چند باتیں سمجھنا ضروری ہے:

۱- نفع مقرر کرنے کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ جزل ایگریمنٹ میں یہ طے کر لیا جائے کہ بینک اس مرانچ کے ہر عقد میں لاگت پر اتنا متعین (Lump sum) یا اتنے فیصد نفع لے گا، لیکن عام طور پر بینک اور کلاسٹ دونوں اس پر راضی نہیں ہوتے، اسلئے کہ مارکیٹ میں تمویل کا (Financing Rate) ریٹ بدلتا رہتا ہے، اسلئے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت فنازنگ ریٹ طے شدہ ریٹ سے زیادہ ہوا تو بینک طے شدہ ریٹ پر مرادی کرنے کیلئے تیار نہ ہوگا (۱) اور اگر تمویل کاریٹ (Financing Rate) طے شدہ نفع سے کم ہوا تو کلاسٹ زیادہ ریٹ پر مرادی کرنے کیلئے آمادہ نہ ہوگا۔ اس بات کو بذریعہ مثال یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ مثلاً اگر جزل ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا کہ سامان خریدنے پر بینک کی جتنی لاغت آئیگی اس میں ۱۰% نفع شامل کر کے بینک یہ سامان کلاسٹ کو فروخت کریگا، اب ہو سکتا ہے کہ عملی مرادی کے وقت تمویل کاریٹ ۱۲% ہو چکا ہو تو اس وقت بینک طے شدہ نفع کی شرح پر مرادی کرنے کیلئے تیار نہ ہوگا اور اگر تمویل کاریٹ ۸% ہو تو کلاسٹ زیادہ ریٹ پر مرادی کرنے کیلئے آمادہ نہ ہوگا۔

(۱) تمویل کے ریٹ سے مراد وہ نرخ ہے جو عام بینک سودی معاملات میں اپنے کلاسٹ سے طے کرتے ہیں، اس کا مدار بینکوں کی باہمی شرح سود پر ہوتا ہے اور چونکہ یہ شرح سود مختلف اوقات میں بدلتی رہتی ہے اسلئے اس کی بنیاد پر قائم ہونے والا ریٹ (Financing rate) بھی بدلتا رہتا ہے (بینکوں کے باہمی شرح سود کی وضاحت آگے آرہی ہے)۔

اصلنے بینک عام طور پر بینکوں کے باہمی شرح سود (۱) کو معیار بناتے ہیں کہ اس وقت جو شرح سود ہوگی، اسی کو معیار بنا کر نفع مقرر کیا جائے گا، اس میں شرح سود پر کچھ اضافی فیصد بھی لگایا جاتا ہے۔ (۲)

اگرچہ اس طرح شرح سود کو معیار بنا کر نفع مقرر کرنا بہتر نہیں لیکن حاجت کے وقت ایسا کرنے کی گنجائش ہے۔ (۳)

لیکن اس صورت میں بھی اس طرح نفع مقرر کرنا جائز نہیں کہ بینک کلاسٹ سے کہے کہ چھ ماہ میں جو کابوئر (KIBOR) ہوگا، اس پر اتنے فیصد بڑھا کر نفع دے دینا بلکہ یہ ضروری ہے کہ معاملہ کے وقت کا ببور کاریٹ معلوم کیا جائے اور اس پر جز ل ایگر یمنٹ

(۱) عام طور پر بینک ایک جیسے حالات میں نہیں چل رہے ہوتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس نقد رقم (liquidity) تو ہوتی ہے لیکن اسے فناں کرنے کا موقع نہیں ہوتا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاناں کرنے کا موقع آجاتا ہے لیکن بینک کے پاس نقد رقم نہیں ہوتی ایسی حالت میں جس بینک کو نقد رقم کی ضرورت ہو وہ ایسے بینک سے نقد رقم حاصل کرتا ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد ہو، کنوپیشل بینکوں میں اس لین دین پر ایک شرح سود طے ہوتی ہے جو قرض لینے والا بینک دوسرے بینک کو ادا کرتا ہے اسے بینکوں کی باہمی شرح سود (Inter Bank Offered Rate) کہتے ہیں، عام طور پر مختلف ملکوں کی شرح سود مختلف ہوتی ہے پاکستان میں عام طور پر کراچی کے بینکوں کی باہمی شرح سود یعنی کابوئر (KIBOR) استعمال ہوتا ہے)

(۲) جیسے  $KIBOR + 1$  یا  $2$  KIBOR + غیرہ۔

(۳) شرح سود کو بنیاد بنا نے کی وجہ سے یہ معاملہ ظاہری طور پر سودی قرضے کے مشاپ ہو جاتا ہے جو کہ کوئی پسندیدہ تاریخ نہیں دیتا، لیکن جس شرط کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی ہے، (یعنی عملی مرابح کے وقت کا ببور کاریٹ معلوم کر کے نفع کا تعین کرنا) اس شرط کی وجہ سے سامان کی قیمت فروخت متین ہو جاتی ہے لہذا اگر بیع کے صحیح ہونے کی دیگر شرائط بھی پائی جائیں تو پھر شرح سود کو صرف جو اے کے طور پر ذکر کرنے سے یہ معاملہ ناجائز نہیں ہوگا، البتہ اگر اسلامک بینک کا کاروبار کچھ بڑھ جائے اور ان کے باہمی لین دین کے معاملے بھی شروع ہونے لگیں تو شرح سود کے بجائے اسلامی معیار سامنے آ سکتا ہے اس کی ایک ممکن صورت آخر میں سوال و جواب کے ذیل میں آرہی ہے۔

میں طے شدہ اضافہ ڈال کر نفع کی تعین کی جائے اور پھر نفع کو اصل لागت میں شامل کر کے قیمت طے کیجائے مثلاً جزل ایگریمنٹ میں طے ہوا تھا کہ نفع کی شرح کا ببور + 2% ہو گی تو عملی طور پر مرابحہ کرتے وقت یہ ضروری ہو گا کہ اس دن کے کا ببور کی شرح معلوم کی جائے، فرض کریں کہ اس دن کا ببور کی شرح کم ہو یا زیادہ، اس معاملے میں طے شدہ نفع کی شرح اور اس کی بنیاد پر طے کردہ قیمت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ ماشر مرابحہ ایگریمنٹ یا ماشر فانگ ایگریمنٹ کی حد تک تو نفع طے کرنیکا کوئی فارمولہ بنایا جاسکتا ہے لیکن عملی طور پر مرابحہ کرتے وقت اس فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک متعین قیمت کا مقرر کرنا ضروری ہے اسی مثال کو لے لجھئے کہ نفع کا فارمولہ  $KIBOR + 2\%$  طے ہوا تھا مرابحہ جس دن کیا جا رہا ہے اس دن  $KIBOR$  کا ریٹ 10% ہے تو کل نفع 12% لیا جائیگا۔ اب نفع کی اس مقدار کو سامنے رکھتے ہوئے قیمت طے کر لی جائے گی کہ اصل لاجت مثلاً ایک لاکھ آٹی تو اس کا 12%， بارہ ہزار بتا ہے وہ اس میں شامل کر کے کل قیمت ایک لاکھ بارہ ہزار طے کر لی جائیگی۔ بعد میں کا ببور کے ریٹ میں تبدیلی آنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لہذا بعد میں کا ببور کا ریٹ کم ہو یا زیادہ، بینک ایک لاکھ بارہ ہزار ہی کلائنس سے لے لے گا۔

۲۔ اگرچہ جزل ایگریمنٹ میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ بینک اتنا نفع رکھ کر مرابحہ کریگا (مثلاً کا ببور + 2) لیکن چونکہ اسکی حیثیت باہمی مفاہمت (Mutual Understanding) کی ہے، اسلئے عملی مرابحہ کے وقت اگر بینک

اور کلاسٹ بآہمی رضامندی سے اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔  
 اگر بینک کو سپلائر سے کوئی Rebate ملے تو وہ کلاسٹ کو بھی ملے گا، اس کے  
 برعکس اگر کچھ حقیقی اخراجات بعد میں معلوم ہوں تو انہیں بعد میں بھی قیمت میں شامل کیا  
 جاسکتا ہے۔ مثلاً وہ سامان جسے بینک نے ایک لاکھ میں خریدا تھا، اگر سپلائر اپنی طرف  
 سے بینک کو دس فیصد ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہے جس کی وجہ سے اس سامان کی لاگت توے  
 ہزار روپے رہ جاتی ہے تو اب بینک توے ہزار پر بارہ فیصد کے حساب سے نفع لے گا نہ  
 کہ ایک لاکھ پر، اس کے برعکس اگر بینک کی لاگت بڑھ جاتی ہے مثلاً بینک نے یہ سمجھا  
 کہ اسے یہ سامان ایک لاکھ میں پڑا ہے لیکن لوڈنگ کا کوئی بل یا کسی ڈیوٹی کا بل اس  
 وقت سامنے نہ آیا تھا، مراہج ہونے کے بعد پتہ چلا کہ بینک نے یہ بل بھی ادا کیا تھا تو  
 اب بینک اس کو لاگت میں شامل کر کے اس پر بارہ فیصد کے حساب سے نفع لگا کر وصول  
 کر سکتا ہے مثلاً یہ بل دس ہزار روپے کا تھا تو اب بینک ایک لاکھ دس ہزار روپے پر نفع  
 وصول کر سکتا ہے۔

## آخری مرحلہ: ادائیگی

۱۔ ادائیگی دو طرح کی ہے:

الف: بینک کی طرف سے سپلائر کو ادائیگی۔

ب: کلاسٹ کی طرف سے بینک کو ادائیگی۔

عام طور پر بینک سپلائر کو نقد ادائیگی کرتا ہے اور کلاسٹ بینک کو دو طرح سے  
 ادائیگی کرتا ہے:

الف: قسطوں کی شکل میں۔

ب: ایک معینہ مدت کے بعد۔

اگر چھ ماہ کیلئے مراجع ہوا تو پہلی صورت میں مثلاً چھ قسطوں میں ادائیگی ہوگی اور دوسری صورت میں چھ ماہ کے بعد یکمشت ادائیگی کی جائیگی، دونوں صورتیں درست ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مراجع ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کی ادائیگی ادھار ہی کی صورت میں ہو بلکہ یہ بیع (Sale) کی ایک قسم ہے، تو جس طرح بیع میں نقد اور ادھار دونوں طرح سے ادائیگی ہو سکتی ہے اسی طرح مراجع میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ کلاسٹ کے پاس نقدر قم نہیں ہوتی یا وہ اپنی رقم کو مطلوبہ سامان کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہتا، اسلئے وہ بینک کے پاس آ کر ادھار پر مراجع کرتا ہے جس کی ادائیگی کبھی قسطوں میں ہوتی ہے اور کبھی مدت کے اختتام پر یکمشت ہوتی ہے۔

۲۔ بعض اوقات بینک فوری ادائیگی نہیں کرتا بلکہ سپلائر کی طرف سے اسے کچھ مہلت ملتی ہے ظاہر ہے کہ اس صورت میں کلاسٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بینک کو سپلائر سے جتنی مہلت ملی ہے، اسے بینک سے اس سے زیادہ مہلت ملے۔ ایسا کرنا جائز ہے بشرطیکہ ادائیگی کی مدت متعین ہو مثلاً بینک کو سپلائر سے ۶۰ دن کی مہلت ملی اور کلاسٹ نے کہا کہ جب آپ سپلائر کو ادائیگی کریں گے تو میں اس کے ۹۰ دن بعد آپ کو ادائیگی کروں گا، یہ صورت جائز ہے لیکن اگر کلاسٹ بینک سے یہ کہے کہ جب بھی آپ سپلائر کو ادائیگی کریں گے میں اس کے ۹۰ روز بعد ادائیگی کروں گا اور یہ معلوم نہیں کہ بینک سپلائر کو کب ادائیگی کریگا تو یہ صورت جائز نہیں کیونکہ اس میں ادائیگی کی مدت غیر معلوم ہے اس کا آسان حل یہ ہے کہ بینک خود سپلائر سے طے کرے کہ بینک اسے کب ادائیگی کریگا اور اگر بذریعہ کلاسٹ خریداری ہوئی ہے تو بینک کلاسٹ سے کہے کہ آپ سپلائر سے ادائیگی کی مدت متعین کروالیں تاکہ اس کی وجہ سے آپ کی ادائیگی کی مدت بھی ابھی سے متعین ہو جائے۔ واضح رہے کہ مراجع کرتے وقت ہی یہ تمام امور طے کرنا ضروری ہیں کہ

بینک سپلائر کو ادا نہیں کب کریگا اور کلاسٹ بینک کو ادا نہیں کب کریگا، تاکہ قیمت کا تعین ہو سکے، کیونکہ بینکوں میں جو مرابحہ کیا جاتا ہے اس میں نفع کی تعین میں رقم کی مقدار اور کتنے دن بینک کی رقم استعمال ہوگی ان دونوں چیزوں کو ملاحظہ رکھا جاتا ہے اور ظاہر ہے نفع کی تعین کے بعد ہی قیمت کا تعین ہو سکے گا، اسی وجہ سے امپورٹ یوزنیس ایل سی (۱) میں بینک کو فارورڈ کو ریلنے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ فناں کے وقت پاکستانی روپے میں سامان کی قیمت طے کی جاسکے۔

بس اوقات اسلامی بینکوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ مرابحہ کرتے وقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہم سپلائر کو قیمت کی ادا نہیں کر رہے اسلئے ابھی قیمت کے تعین کی ضرورت نہیں، مثلاً دو مہینے بعد جب سپلائر کو ادا نہیں کریں گے تو اس وقت یہ دیکھ کر کہ کلاسٹ کو کتنے دنوں کے لئے مرابحہ چاہئے قیمت طے کریں گے، یہ صورت جائز نہیں کیونکہ جب مرابحہ کے ایجاد و قبول کے وقت قیمت طے نہیں ہوئی تو اصولاً مرابحہ ہی درست نہیں ہوا، دو مہینے بعد جب سپلائر کو ادا نہیں کی جائیگی اس وقت اگر قیمت طے کریں تو اس وقت سامان بظاہر موجود نہیں ہوگا کیونکہ کلاسٹ دو مہینے میں اسے استعمال کر چکا ہوگا اسلئے اس وقت بھی مرابحہ کرنا درست نہیں۔

۳۔ جب مرابحہ مکمل ہو جاتا ہے تو مطلوبہ سامان کلاسٹ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے اور اس کی قیمت کلاسٹ کے ذمے قرض ہو جاتی ہے اس قیمت پر قرض کے سارے احکام لاگو ہوں گے جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

یہاں پر دو طرح کے رسک (Risk) پیدا ہوتے ہیں:

۱: عدم ادا نہیں کارسک (Risk of Default)

۲: ادا نہیں میں تاخیر کارسک (Risk of Late Payment)

## عدم ادا سیکی کا خطرہ (Risk of Default)

پہلے رسک کے حل کیلئے بینک کائنٹ سے رہن (Mortgage) یا ضمانت لیتا ہے اور اس کا طریقہ تقریباً وہی ہوتا ہے جو کونیشنل بینکوں میں راجح ہے۔

ضمانت (Collateral) کی اقسام:

تعارف کیلئے ذکر کیا جاتا ہے کہ ضمانت درج ذیل اقسام کی ہوتی ہے:

۱) جزء گارنٹی (General Guarantee):

یہ گارنٹی عام طور پر ادارے کے ڈائریکٹران اپنی ذاتی حیثیت میں دیتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیفالت ہوا تو ڈائریکٹران اپنے ذاتی ااثاثوں سے بینک کے نقصان کی تلافی کریں گے۔

۲) ہاپوٹھکیشن (Hypothecation):

اس کا تعلق کائنٹ کے قابل انتقال (Movable) اثاثہ جات (Assets) سے ہوتا ہے جس میں بینک کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ کائنٹ کے ڈیفالت کرنے کی صورت میں وہ اسکے قابل انتقال اثاثہ جات (Movable Assets) کو اپنے قبضہ میں لے لے۔ جن اثاثہ جات کو قبضہ میں لینے کا اختیار دیا جاتا ہے، ان کی تفصیل بھی اس گارنٹی میں ذکر کی جاتی ہے۔

۳) رہن (Pledge):

اس میں بینک کچھ سامان رہن (Pledge) کے طور پر رکھ لیتا ہے، رہن کی

دو صورتیں ہیں:

### الف: رهن بالقبض (Pledge with Possession)

یعنی کوئی چیز عملی طور پر بینک کے قبضے میں دے دی جائے، مثلاً بینک اسی سامان کو اپنے گودام میں رکھ لے، اور یہ شرط لگادے کہ جب تک کلائنٹ ادائیگی نہیں کریگا، سامان اس کے حوالے نہیں کیا جائیگا۔

اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کلائنٹ جتنی ادائیگی کرتا جائے، اتنا مال چھڑاتا رہے۔

### ب: رهن حکمی (Registered pledge)

رہن حکمی سے مراد یہ ہے کہ کلائنٹ جو چیز رہن رکھوار ہا ہے وہ تو اسی کے پاس رہے البتہ اس کے کاغذات بینک کے حوالے کر دیئے جائیں جس کی وجہ سے بینک کو ادائیگی کے بغیر وہ اپنا سامان آگئے نہیں پہنچ سکتا۔

**وضاحت:** رہن رکھنے سے چیز کی ملکیت منتقل نہیں ہوتی بلکہ بدستور کلائنٹ، ہی مرحونہ چیز کا مالک رہتا ہے اور اگر رہن بالقبض (Pledge with Possession) ہو تو اس کی حفاظت کرنا بینک کی ذمہ داری ہے لیکن بینک اس کی حفاظت کرنے کے اخراجات جیسے گودام (Godown) کا کرایہ اور محافظ (Guard) کی تنخواہ کلائنٹ سے نہیں لے سکتا البتہ مراجع کے وقت ان اخراجات کا عمومی اندازہ لگا کر نفع کی شرح میں اضافہ کرنے کی گنجائش ہے۔

### ۲- مقاصہ (Set off):

بعض مرتبہ بینک اپنے کلائنٹ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اس بینک کے

اکاؤنٹ میں کچھ رقم رکھوائے اور بینک کو یہ اختیار دے کہ اگر اس نے ورنی قسط ادا نہ کی تو بینک اتنی رقم اس کے اکاؤنٹ سے کاٹ لے گا، اسے مقاصہ یا سیٹ آف (setoff) کہتے ہیں۔

### ۵: پیپر گارنٹی (Paper Guaranty):

یہ وہ گارنٹی ہے جن کا تعلق کاغذات سے ہوتا ہے جیسے شیئرز، اس گارنٹی میں کلائنٹ بینک کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اگر اس نے بروقت ادائیگی نہ کی تو بینک کو اختیار ہوگا کہ اس کے فلاں قسم کے شیئرز کو پہنچ کر اپنی رقم وصول کر لے، اس عمل کو لین مارک (Lien Mark) کرنا بھی کہتے ہیں۔

بس اوقات کلائنٹ کا اسی بینک میں کوئی اکاؤنٹ ہوتا ہے اس پر بھی لین مارک کروایا جاتا ہے۔

جن شیئرز کی گارنٹی بینک کو دی جائے، کلائنٹ وہ شیئرز اس وقت تک مارکیٹ میں فروخت نہیں کر سکتا جب تک کہ بینک کی مطلوبہ رقم ادا نہ کر دے۔

### ۶: شپنگ گارنٹی (Shipping Guaranty):

اس کا تعلق امپورٹ مرابحہ سے ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے سامان کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔

۱۔ سامان اور اس کے کاغذات (Documents) بیک وقت پہنچ جائیں۔

۲۔ کاغذات سامان سے پہلے آجائیں۔

۳۔ سامان پہلے آجائے اور کاغذات بعد میں پہنچیں۔

پہلی دو صورتوں میں اس گارنٹی کی ضرورت نہیں پڑتی البتہ تیسرا صورت میں جہاں سامان پہلے آ جاتا ہے اور کاغذات نہیں پہنچ پاتے تو ایسی صورت میں حکومتی

کارندے درآمد کنندہ کو یہ سامان اس وقت تک نہیں اٹھانے دیتے جب تک کہ اس کا بینک گارنٹی جاری نہ کرے، ایسے موقع پر بینک جو گارنٹی جاری کرتا ہے اسے شپنگ گارنٹی کہتے ہیں اس گارنٹی کی وجہ سے کائنٹ بروقت سامان اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔

## ادائیگی میں تاخیر کا خطرہ

### (Risk of Late Payment)

دوسرा خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عميل بینک کو بروقت ادائیگی نہ کرے بلکہ آئمیں کچھ تاخیر کرے، عام روایتی بینکوں (Conventional Banks) میں تو تاخیر کی صورت میں فی یوم کے حساب سے سود لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلامی بینک اس صورت پر عمل نہیں کر سکتا، لیکن دوسری طرف اس خطرے کے ازالے کیلئے اگر کوئی موثر انتظام نہ کیا جائے تو پھر ادائیگی میں تاخیر کا سلسلہ تیزی سے شروع ہو جائیگا جس سے نہ صرف ان ذیپازیز کا نقصان ہوگا جنہوں نے اپنا سرمایہ بینک میں سرمایہ کاری کی بنیادوں پر رکھوایا ہوا ہے بلکہ خود بینک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائیگا اسلئے یہ ضروری ہے کہ شرعی حدود کے اندر اس کا کوئی موثر حل تلاش کیا جائے۔

اس سلسلے میں معاصر علماء کرام نے مختلف حل تجویز کئے ہیں لیکن تا حال ان میں سب سے زیادہ بہتر حل وہ سمجھا گیا ہے جو اس وقت ہمارے ہاں کے اسلامی بینکوں میں راجح ہے وہ یہ کہ مرا بح کی لمبٹ منظور کراتے وقت عميل اپنی طرف سے یہ التزام (Undertaking) کرتا ہے کہ ”اگر میں نے بروقت ادائیگی نہ کی تو میں اتنی رقم بینک کے منظم کردہ خیراتی فنڈ میں جمع کراؤں گا“ یہ رقم قرض کے تناسب (Ratio) سے بھی طے کی جاسکتی ہے اور متعین رقم بھی مقرر کی جاسکتی ہے۔

اس التزام کی وجہ سے وہ اس بات کا پابند ہو جاتا ہے کہ ادائیگی میں تاخیر کرنے کی صورت میں متعینہ رقم بینک کے خیراتی فنڈ میں جمع کرائے، چنانچہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بینک کو بروقت ادائیگی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

البته یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ چونکہ یہ صدقہ عميل (Client) کے اپنے اوپر التزام کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اسلئے بینک کو یہ اختیار نہیں کہ وہ عميل کو یہ صدقہ معاف کر دے بلکہ اگر بینک نے معاف بھی کر دیا تو بھی اپنے طور پر عميل پر اس کی ادائیگی لازمی ہوگی۔<sup>(۱)</sup>

نیز صدقہ کے طور پر حاصل ہونے والی رقم کو کسی طور پر بینک اپنی آمدنی کا حصہ نہیں بناسکتا بلکہ اس پر لازم ہے کہ کلاشت سے وصول ہونے والے صدقے کو اس کے شرعی مصارف پر ہی خرچ کرے۔

گویا اس تجویز پر عمل کرنے کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کلاشت بروقت ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے لیکن اس تجویز کے نتیجے میں اسلامی بینک وہ فوائد حاصل نہیں کر سکتا جو رواتی بینک اپنے تجویز کردہ طریقے سے (یعنی مزید سوداگو کر کے) حاصل کرتے ہیں اور یہ متبادل صرف اس وجہ سے اختیار کرنا پڑا کہ کلاشت کو بروقت ادائیگی کا پابند نہ بنانے کی صورت میں بینک شدید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔

(۱) کیونکہ بینک کے معاف کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس نے اس صدقہ سے متعلق اپنے حق کو معاف کر دیا یعنی اس صدقہ سے بینک کا یہ حق متعلق تھا کہ کلاشت یہ صدقہ بینک کو دے اور بینک اسے شرعی مصرف پر خرچ کرے تو بینک کے معاف کر دینے سے اس کا وہ اصل صدقہ معاف نہیں ہوگا جس کی ادائیگی کا اس نے التزام کیا تھا بلکہ صرف بواسطہ بینک اس کی ادائیگی ضروری نہ ہوگی، اصل صدقہ کی ادائیگی بہر حال ضروری ہوگی ہاں اگر وہ مالی طور پر اتنا غریب ہو جائے کہ اس کے پاس صدقہ کرنے کے لئے کچھ نہ رہے تو امید ہے کہ اس حالت میں صدقہ ادا نہ کرنے سے گنہگار نہ ہوگا۔

## قبل از وقت ادا یتگی کی صورت میں رعایت

(Rebate in the case of Early payment)

اس کے برعکس اگر کلاںٹ مقررہ وقت سے پہلے ادا یتگی کر دے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے کچھ چھوٹ مل جائے، سودی نظام میں تو باقیہ دنوں کا سود وصول نہیں کیا جاتا لیکن اسلامی بینکوں میں تو کلاںٹ سے کوئی سود نہیں لیا جا رہا ہوتا کہ آئندہ کا سود وصول نہ کیا جائے، بلکہ دراصل اس سامان کی قیمت کلاںٹ کے ذمہ قرض ہوتی ہے جسے اس نے بذریعہ مرا بح بینک سے خریدا، چونکہ ادھار سامان بیچتے وقت بالع (Seller) خریدار سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر تم نے اس کی ادا یتگی جلدی کر دی تو اتنی رقم کم کر کے دیدیں، اسلئے اسلامی بینک بھی مرا بح کرتے وقت اپنے کلاںٹ کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ اگر اس نے وقت سے پہلے ادا یتگی کی تو اسے کچھ چھوٹ (Rebate) ملے گی البتہ اگر پہلے سے طے شدہ نہ ہو اور بینک کسی کلاںٹ کو خالصتاً اپنی صوابدید پر (On its sole discretion) کسی وقت کوئی Rebate دینا چاہے تو اسکی گنجائش ہے ایسی صورت میں عام طور پر بینک کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کلاںٹ Rebate کا مطالبہ کرے تو اس کے سارے کیس پر غور کرتا ہے، غور کرنے کے بعد اگر بینک مناسب سمجھے تو اسے Rebate دے سکتا ہے لیکن کلاںٹ کو اس کی بنیاد پر آئندہ رعایت (Rebate) لینے کا حق حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس رعایت (Rebate) کو کسی اور معاملے کیلئے نظر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔



## امپورٹ مراد کے



## ”اپورٹ مراجع“

مراجع کا بنیادی تصور اور اس کا طریقہ کار تو وہی ہے جو گزشتہ صفحات میں بیان کیا گیا البتہ اگر مراجع کے لئے سامان بیرون ملک سے درآمد (Import) کرنا پڑے تو اس کے لئے کچھ اضافی اقدامات کرنا پڑتے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

اپورٹ مراجع کے اندر بنیادی زائد چیز جو لوگ مراجع میں نہیں ہوتی وہ ایم سی (LC) ہے، اس کا پورا نام لیٹر آف کریڈٹ (Letter of Credit) ہے اور سب سے پہلے ہم اس کے متعلق ضروری گفتگو کرتے ہیں۔

### ایم سی کی حقیقت:

جب کوئی شخص کسی دوسرے ملک سے مال منگواتا ہے تو براہ راست نہیں منگوا سکتا بلکہ بینک کو درمیان میں واسطہ بانا پڑتا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایکسپورٹر (Exporter) یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ مطلوبہ سامان اپورٹر (Importer) کے ہاں بھیجے تو اسے اس سامان کی قیمت کا مانا یقینی ہو۔ اس

مقصد کے لئے امپورٹ کا بینک ایکسپورٹر کو ایک ضمانت نامہ دیتا ہے جس میں وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ سامان فلاں کو فروخت کر دیا جائے، اس کی ادائیگی کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس ضمانت نامہ کو ”لیٹر آف کریڈٹ“ کہتے ہیں جس کا مختصر نام ”ایل سی“ ہے، عربی میں اسے ”خطاب الاعتماد“ کہا جاتا ہے۔

(پہلے ایل سی کی ضرورت صرف بیرونی تجارتؤں میں ہوتی ہے لیکن اب مقامی (Local) تجارت کے لئے بھی ایل سی کھولنے کا رواج ہو گیا ہے، ایسی ایل سی کو ”لوکل ایل سی“ کہتے ہیں)

### ایل سی کی قسمیں (Kinds of L/C):

ایل سی کی تین صورتیں ہیں:

۱۔ فل مارجن ایل سی: ایسی ایل سی جس میں بینک ایل سی کھلانے والے کلائنٹ سے مطلوبہ سامان کی پوری قیمت لیکر ضمانت جاری کرتا ہے۔

۲۔ زیرو مارجن ایل سی: ایسی ایل سی جس میں بینک ضمانت جاری کرتے ہوئے کلائنٹ سے کچھ نہیں لیتا بلکہ قیمت کی ساری ادائیگی بعد میں کی جاتی ہے۔

۳۔ % مارجن ایل سی: بعض مرتبہ ایل سی کھلواتے وقت کچھ ادائیگی کر دی جاتی ہے، اس صورت میں قیمت کا جتنا حصہ ادا کیا جائے، اتنے فیصد پر ایل سی کھلنا کہتے ہیں مثلاً اگر کل قیمت کا میں فیصد ادائیگی کر کے ایل سی کھلوائی گئی تو کہا جائیگا کہ یہ ایل سی میں فیصد مارجن پر کھلوائی گئی۔

قیمت کی ادائیگی کے اعتبار سے ایل سی کی دو صورتیں ہوتی ہیں:

۱۔ اگر سامان کے کاغذات چھڑاتے وقت ساری ادائیگی کرنا لازم ہو تو اسے

سائٹ ایل سی (Sight L/C) کہتے ہیں۔

۲۔ اگر کاغذات چھڑاتے وقت ادائیگی کرنا لازم نہ ہو بلکہ ایکسپورٹ کی طرف سے کچھ دنوں کی مہلت ہوتا سے یوزنیس ایل سی (Usance L/C) کہتے ہیں۔

### ایل سی اور کنویشنل بینک:

اس مرحلے پر مراجع کے جوالے سے اسلامی بینک کا کردار دیکھنے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ایل سی کے معاملہ میں کنویشنل بینک کا کردار بھی ذکر کیا جائے تاکہ دونوں کے مقابل سے صحیح صورتحال سمجھنے میں آسانی ہو۔

اگر امپورٹ فل مارجن ایل سی کھلوائے تو کنویشنل بینک اس کے لئے دو خدمات انجام دیتا ہے۔

### ۱۔ وکالت (Agency):

یعنی بینک امپورٹ کا وکیل بن کر ایکسپورٹ سے معاملات کرتا ہے، جیسے امپورٹ کے کاغذات ایکسپورٹ کے ہاں بھجوانا، ایکسپورٹ کے بھیجے ہوئے کاغذات وصول کر کے امپورٹ کو دینا وغیرہ، وکالت کی وجہ سے دی جانے والی ان خدمات پر بینک ایک مخصوص فیس لیتا ہے۔

### ۲۔ ضمانت (Guarantee):

بینک ایکسپورٹ کو اس بات کی ضمانت فراہم کرتا ہے کہ اگر امپورٹ نے ادائیگی نہ کی تو میں ادا کروں گا۔ کنویشنل بینک اس پر بھی اجرت لیتا ہے۔

مذکورہ بالا دو خدمات اس صورت میں ہیں جبکہ ایل سی فل مارجن پر کھلوائی گئی

ہو لیکن اگر ایں سی فل مار جن پر نہ کھلوائی گئی ہو بلکہ زیر و مار جن پر کھلوائی گئی ہو یا کچھ فیصلہ مار جن پر کھلوائی گئی ہو اور امپورٹر خود ہی بروقت ساری یا باقیہ ادائیگی کردے تو بھی بینک مذکورہ بالا دو کام ہی کرتا ہے لیکن بعض مرتبہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بروقت ادائیگی تو بینک کریگا (۱) اور امپورٹر اس کے کچھ عرصہ بعد بینک کو ادائیگی کریگا، ایسی صورت میں بینک امپورٹر کی طرف سے جتنی رقم کی ادائیگی کرتا ہے وہ اس پر قرض بن جاتی ہے جس پر متعین شرح سے سود لیا جاتا ہے۔

ایسی صورت میں بعض مرتبہ مذکورہ بالا باقاعدہ معاملہ تو نہیں ہوتا لیکن کاغذات آنے پر امپورٹر بروقت ادائیگی نہیں کر سکتا مثلاً پہلے اس کا ارادہ بروقت ادائیگی کا تھا لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو اس کے پاس مطلوب رقم نہیں تھی یا وہ اپنی رقم کو اس ادائیگی میں خرچ نہیں کرنا چاہتا یا بعض مرتبہ جب کاغذات آتے ہیں تو امپورٹر ایسی جگہ ہوتا ہے کہ اس سے رابطہ کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے ایسی صورت میں بینک بروقت ادائیگی کر دیتا ہے اور اتنی رقم امپورٹر کے ذمہ قرض ہو جاتی ہے اس قرض سے پر بھی سود لیا جاتا ہے۔

دوسری طرف ایکسپورٹر کا بینک اگرچہ کوئی ضمانت نہیں دیتا، تاہم باقیہ دو خدمات انجام دیتا ہے۔

۱۔ وکالت (Agency): یعنی بینک ایکسپورٹر کا وکیل بن کر امپورٹر سے معاملات کرتا ہے۔

۲۔ قرض (Credit): بعض اوقات ایکسپورٹر کے پاس کوئی آرڈر ہوتا

(۱) اگر سائب ایل۔ سی ہو تو بروقت ادائیگی کا مطلب ہو گا کہ کاغذات آتے ہی ادائیگی کرنا اور اگر یوز میں ایل سی ہو تو بروقت ادائیگی کا مطلب ہو گا کہ جتنی مہلت ایکسپورٹر کی طرف سے دی گئی ہے، اس کے نتیجے ہوتے ہی ادائیگی کرنا۔

ہے لیکن مطلوبہ سامان کی تیاری کے لئے اس کے پاس رقم نہیں ہوتی ، یا وہ اپنی رقم استعمال نہیں کرنا چاہتا تو ایسی صورت میں وہ بینک سے قرضہ لیکر مطلوبہ اشیاء تیار کر کے ایکسپورٹ کرتا ہے۔

ہر حکومت برآمدات (Exports) کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس ملک کو زریمباولہ حاصل ہوتا ہے، اسلئے باوقات ایکسپورٹ و کم شرح سود پر قرضہ مل جاتا ہے۔

**اسلامی بینک کا کردار: امپورٹ مرابحہ میں**

اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسلامی بینک درآمدات و برآمدات میں کس طرح مرابحہ کرتا ہے۔

مرابحہ کے اندر چونکہ اصل خریدار بینک ہوتا ہے اور کلاںٹ اس کے وکیل ہونے کی حیثیت سے خریداری کرتا ہے، اسلئے اسلامی بینک ایں ۔ سی کھونے کے مرحلے پر ہی کلاںٹ سے ایجنسی ایگریمنٹ (وکالت نامہ) بھی کر لیتا ہے جس کے نتیجہ میں کلاںٹ مطلوبہ سامان کی خریداری میں بینک کا وکیل بن جاتا ہے چنانچہ ایکسپورٹر جب مال تیار کر کے روانہ کرتا ہے تو درحقیقت وہ بینک کو سامان بھیج رہا ہوتا ہے، جب مطلوبہ سامان آ جاتا ہے تو کلاںٹ بینک کو اطلاع دے دیتا ہے کہ میں نے آپ کے وکیل ہونے کی حیثیت سے سامان پر قبضہ کر لیا ہے اور اب میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ اس قیمت پر یہ سامان مجھے فروخت کریں جو جzel ایگریمنٹ میں طے ہوئی تھی، بینک جو نہیں اس آفر کو قبول (Accept) کرتا ہے، مرابحہ کا عقد وجود میں آ جاتا ہے اور اس طرح اس سامان کی ملکیت بینک سے کلاںٹ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔

یہ بات پیچھے گذر چکی ہے کہ ایل-سی تین طرح کی ہوتی ہے:

۱۔ فل مارجن ایل سی

۲۔ زیر و مارجن ایل سی

۳۔ مارجن ایل سی

اگر ایل سی فل مارجن ہو تو ایسی صورت میں مرابحہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ کلاسٹ ایل سی کھولتے وقت ہی سامان کی ساری قیمت ادا کر دیتا ہے، اس صورت میں ایل-سی کھولتے وقت کلاسٹ سے ایجنسی ایگر یمنٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی بلکہ اس صورت میں خود بینک کلاسٹ کا وکیل ہوتا ہے، نیز امپورٹر کی طرف سے ایکسپورٹر کا ضامن بھی ہوتا ہے۔ اسلامی بینک مخصوص ضمانت پر تو کوئی اجرت نہیں لے سکتا لیکن اس صورت میں چونکہ بینک وکالت کی ذمہ داری بھی انجام دیتا ہے اور وکیل کے لئے اجرت لینا جائز ہے، اس کے لئے وکالت کی اجرت لے سکتا ہے۔

لیکن اگر اس موقع پر بھی بینک کلاسٹ سے ایجنسی ایگر یمنٹ کر لے اور سارا سامان خود خرید لے پھر سامان آنے کے بعد مرابحہ معجلہ (Spot Murabaha) کر لے تو یہ بھی جائز ہے (اس سے متعلق تفصیلات آگے سوالات و جوابات کے حصہ میں آرہی ہے)۔

جب زیر و مارجن پر یا کچھ فیصد (%) مارجن پر ایل سی کھولی گئی ہو تو اس صورت میں بینک کلاسٹ سے ایجنسی ایگر یمنٹ کرتا ہے جس کے نتیجے میں کلاسٹ بینک کا وکیل بن جاتا ہے اب اگر زیر و مارجن پر ایل سی کھولی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا سامان بینک نے خریدا اور پھر اسے بذریعہ مرابحہ اپنے کلاسٹ کو فروخت کر دیا اور اگر کچھ مارجن لیکر ایل سی کھولی گئی اس صورت میں بھی سارا سامان بینک خود

خریدتا ہے البتہ کلائنس سے مراجع کرتے وقت مارجن کی رقم قیمت کا نقد حصہ بن جاتی ہے اور بقیہ قیمت قسطوں میں وصول کی جاتی ہے۔

**مراجع کس مرحلے پر کیا جاسکتا ہے؟**

جب ایکسپورٹر مال جہاز پر سوار کر اکر اس کے کاغذات (Documents) جیسے بل آف لائڈنگ (Bill of Lading) وغیرہ بھیج دے تو بینک یہ کاغذات وصول کرنے کے بعد سامان بذریعہ مراجع اپنے کلائنس کو فروخت کر سکتا ہے بشرطیکہ بینک کا سامان اس جہاز میں آنے والے دیگر سامان سے ممتاز اور نمایاں ہو یا فیصد (Percentage) کے اعتبار سے متعین اور معلوم ہو مثلاً ایکسپورٹر نے ایک کنٹینر (Container) میں آئل مختلف امپورٹر کو بھیجا ہے اور اس میں یہ معلوم ہے کہ کتنے فیصد تیل کس امپورٹر کا ہے تو اتنی تعیین (Identification) ہونے کے بعد بھی بینک مطلوب سامان آگے فروخت کر سکتا ہے۔

لیکن کلائنس یہ سامان اس وقت تک آگے فروخت نہیں کر سکتا جب تک وہ خود یا اس کا وکیل اس پر قبضہ نہ کر لے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ شپنگ کمپنی ایکسپورٹر سے مال وصول کر کے امپورٹر کے ہاں پہنچاتی ہے، وہ شرعی اور قانونی اعتبار سے امپورٹر کی طرف سے سامان پر قبضہ کرنے کی وکیل (Agent) ہے۔<sup>(۱)</sup>

(۱) یہاں یہ بات جائز ضروری ہے کہ یہ دونوں ملک سے مال منگوانے کے بنیادی طور پر دو طریقے میں ایک - او - بی (F O B) یہ انگریزی میں Free on Board کا مخفف (Abbreviation) ہے جس کا مطلب ہے ایکسپورٹر کی ذمہ داری صرف بندرگاہ (Port) تک سامان پہنچانے کی ہے شپنگ کمپنی کا مراجع اپورٹر کا اکرنا ہے۔ بقیہ اگلے صفحے پر

لہذا جب وہ مطلوب سامان پر قبضہ کر لیتی ہے تو یہ سمجھا جائیگا کہ یہ سامان بینک کے قبضہ میں آگئیا یونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے چنانچہ اس کے قبضہ کر لینے کے بعد جب کاغذات (Document) بینک کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو بینک اس پر مرابح کر سکتا ہے لیکن چونکہ شپنگ کمپنی کائنٹ کی وکیل نہیں ہوتی، اسلئے مرابح ہونے کے باوجود سامان بینک ہی کے قبضہ میں سمجھا جاتا ہے لہذا جب تک خود کائنٹ یا اس کا ایجنت اس سامان پر قبضہ نہ کر لے اسے آگے فروخت نہیں کر سکتا اور اگر اس مرتے پر بھی سامان بلکہ ہو گیا تو وہ بینک کا نقصان ہو گا، باوجود اس کے کہ مرابح ہو چکا تھا۔

اگر یوزنیں ایل سی ہو جس میں اصل سپلائر کی طرف سے ادائیگی میں مہلت دی جاتی ہے اور اس میں کائنٹ بینک سے مرابح کرنا چاہتا ہو تو شرعی نقطہ نظر سے اس صورت میں ایک بنیادی مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بینک اپنی لگت کا تعین کیسے کرے، کیونکہ اسے مرابح تو فوراً کرنا ہوتا ہے جبکہ ایکسپورٹر کو کچھ عرصہ بعد ڈالر ز میں ادائیگی کرنی ہوتی ہے اور ڈالر کا ریٹ بدلتا رہتا ہے اسلئے مرابح کرتے وقت یہ معلوم نہیں ہو سکتا، کہ بینک جس وقت ایکسپورٹر کو ادائیگی کریگا، اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا ہو گا؟ اور

#### .....باقی صفحہ گذشت.....

۲: سی اینڈ ایف (C & F) یا انگریزی جملے Cost & Freight کا مخفف ہے اس صورت میں ایکسپورٹر بندگاہ تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ شپنگ کمپنی کا کرایہ بھی ادا کرتا ہے۔ پہلی صورت میں شپنگ کمپنی کا ایکسپورٹر کا وکیل ہونا واضح ہے دوسری صورت میں اس کا رو بارے عرف کے مطابق صرف کرایہ ہے یعنی ایکسپورٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے فی الحقيقة شپنگ کمپنی ایکسپورٹر کی حق وکیل ہوتی ہے لہذا اندکورہ دونوں صورتوں میں اگر راستے میں مال بلکہ ہو جائے تو وہ ایکسپورٹر ہی کا نقصان سمجھا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دونوں صورتوں میں انشورس اور اس کے اخراجات ایکسپورٹر برداشت کرتا ہے۔

جب تک یہ معلوم نہ ہو اس وقت تک بینک کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اسے مطلوب چیز پا کتائی روپے (یا کسی اور کرنی) میں کتنے کی پڑے گی۔

اس مشکل کا آسان حل یہ ہے کہ بینک اپنے کلائنٹ سے بھی ڈالرز میں مراجع کرے یہ بالکل بے غبار صورت ہے کیونکہ بینک کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ایکسپورٹ کرنے ڈالرز دینے ہیں وہ اسی کی بنیاد پر کلائنٹ سے ڈالرز میں مراجع کر سکتا ہے البتہ جس دن بینک ڈالرز لے رہا ہو اس دن ڈالرز کے جتنے پاکتائی روپے بنتے ہیں وہ لے سکتا ہے۔



## مراہجہ کے کاغذات

(Documents of Murabaha)



## مرا بحہ کے کاغذات

### (Documents of Murabaha)

مرا بحہ کا طریقہ کار اجمالی اور تفصیلی طور پر ذکر کرنے کے بعد اب ہم ان ڈاکومینٹس کو ترتیب دار ذکر کرتے ہیں جو مرا بحہ کی تکمیل میں استعمال ہوتے ہیں۔

#### ۱۔ کلائنٹ کی درخواست (Client's Application):

کلائنٹ کی طرف سے درخواست زبانی (Verbally) بھی ہو سکتی ہے اور تحریری (Written) بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر کلائنٹ اپنے لیئر ہیڈ (Head) پر درخواست لکھ کر بھیجتا ہے جس میں وہ بتلاتا ہے کہ وہ کتنی رقم تک مرا بحہ کی لمحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔

#### ۲۔ کریڈٹ پروپوزل (Credit Proposal)

کلائنٹ کی درخواست پر غور کرنے کیلئے بینک اس کی مالی حیثیت

Credit Assessment (Financial Status) کا جائزہ لیتا ہے اس عمل کو کہتے ہیں۔ یہ سارا جائزہ جس ڈاکومنٹ پر تیار ہوتا ہے، اسے کریڈٹ پروپوزل (Credit Proposal) کہتے ہیں۔ کریڈٹ پروپوزل بینک کا آر۔ ایم (Relationship Manager) تیار کرتا ہے۔ چیف منیجر (Chief Relationship Manager) یا نیجر سے منظور کر کے متعلقہ سربراہ (Head) کے پاس منظوری کے لئے بھیجتا ہے۔

### ۳۔ جزء ایگریمنٹ

(General Agreement or Facility Agreement) اگر کائنٹ کے مالی حالات اور اس کے نقد کے بہاؤ (Cash Flow) سے مطمئن ہو کر بینک اسکی درخواست منظور کر لے تو بینک اور کائنٹ کے درمیان ایک جزء ایگریمنٹ (اے Facility Agreement بھی کہتے ہیں) وجود میں آتا ہے۔ اس میں وہ تمام تفاصیل (Details) درج ہوتی ہیں، جس کے مطابق آئندہ مراجحہ ہونا ہے۔ مراجحہ کے ڈاکومینٹس میں یہ سب سے تفصیلی ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔

### ۴۔ لیٹر آف گارنٹی (Customer's Guarantee)

اگر کائنٹ سپلائر خود متعین کر کے آئے تو اس صورت میں وہ اپنی ذاتی حیثیت (Personal capacity) میں بینک کو یہ گارنٹی دیتا ہے کہ اس کا متعین کردہ سپلائر مطلوبہ صفات و شرائط (Specifications & Conditions) کے مطابق سامان فراہم کریگا۔ اس مقصد کیلئے جو ڈاکومنٹ استعمال ہوتا ہے، اسے لیٹر آف گارنٹی (Letter of Guarantee) کہتے ہیں۔

## ۵۔ ایجنسی اگریمنٹ (Agency Agreement)

جب بینک خود خریداری کرنے کے بجائے اسی کلائنٹ کو خریداری کا وکیل بنائے تو اس صورت میں ایجنسی اگریمنٹ (Agency Agreement) کے نام سے ایک ڈاکومنٹ پر بینک اور کلائنٹ دونوں دستخط کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کلائنٹ مطلوبہ سامان کی خریداری کے لئے بینک کا وکیل بن جاتا ہے۔

اس کے اندر وہ تمام ذمہ داریاں (Liabilities) ذکر کی جاتی ہیں جو کلائنٹ پر بینک کے وکیل ہونے کی حیثیت سے عائد ہوتی ہیں اور ایسا جملہ (Sentence) بھی مذکور ہوتا ہے جس سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہو کہ بینک کلائنٹ کو مطلوبہ سامان کی خریداری کے لئے وکیل بن رہا ہے۔ مثلاً اس طرح کا جملہ ہوتا ہے۔

With refrence to the Murabaha Facility Agreement  
dated ..... We hereby appoint you as our agent to  
aquire for our account and benefits, goods of the  
description specified in the relevant local purchase  
order.

اس ڈاکومنٹ پر مطلوبہ سامان کی خریداری سے پہلے دستخط کرنا ضروری ہیں تاکہ کلائنٹ بینک کا ایجنسٹ بن کر بینک کے لئے خریداری کرے۔ اگر خریداری کے بعد یہ ایجنسی اگریمنٹ کیا گیا تو گذشتہ خریداری کلائنٹ کی ذاتی خریداری (Personal Purchase) کمبوچی جائیگی اور بینک اس سامان پر مرا بح نہیں کر سکے گا۔

## ۶۔ لوکل پر چیز آرڈر (Local Purchase Order)

کائنٹ مارکیٹ سے مطلوبہ سامان خریدنے سے پہلے بینک کو بتاتا ہے کہ اسے کیا سامان درکار ہے۔ یہ بتانے کے لئے جو ڈاکومنٹ استعمال ہوتا ہے اسے لوکل پر چیز آرڈر (Local Purchase Order) کہتے ہیں۔ لوکل پر چیز آرڈر کائنٹ اپنے لیٹر ہیڈ (Letter Head) پر بنایا کر بھیجتا ہے جس میں مطلوبہ سامان اور اس کی مقدار اور قیمت بھی درج ہوتی ہے۔ اسی لیٹر کے ساتھ وہ سپلائر کی کوئیشن (Quotation) بھی بھیجتا ہے جس میں مطلوبہ سامان کے ریٹ (Rate) درج ہوتے ہیں۔

## ۷۔ مذکورہ نرخ پر خریداری کا اجازت نامہ:

### (Bank's Instructions to the Agent)

کائنٹ جب سپلائر کی کوئیشن کے ساتھ لوکل پر چیز آرڈر بینک کو بھیجتا ہے تو بینک کو اگر یہ ریٹ مناسب معلوم ہوں تو وہ اس کے مطابق خریداری کی اجازت دیتا ہے۔ یہ اجازت بھی ایک ڈاکومنٹ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ عام طور پر اس میں اس طرح کی عبارت درج ہوتی ہے۔

You are hereby instructed to execute the aforesaid purchase for and on our behalf.

## ۸۔ خریداری کی تصدیق (Confirmation of purchase)

جب کائنٹ بینک کے وکیل ہونے کی حیثیت سے مطلوبہ سامان خرید لیتا ہے تو وہ بینک کو اطلاع دیتا ہے کہ میں نے آپ کے ایجنت ہونے کی حیثیت سے یہ سامان خرید لیا ہے۔ اسے کنفرمیشن آف پر چیز کہا جاتا ہے۔

## ۹۔ ایجاد براء خریداری (Offer to Purchase)

خریداری کی کنفرمیشن کے ساتھ ہی کلائٹ بینک کو یہ آفر کرتا ہے کہ وہ اسے مطلوبہ سامان جز ایگریمنٹ میں طے شدہ شرائط (Conditions) کے مطابق فروخت کر دے۔

عام طور پر کنفرمیشن اور آفر تو پر چیز کے کاغذات اکٹھے بھیجے جاتے ہیں اور بعض مرتبہ ان دونوں کے لئے صرف ایک ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے۔

## ۱۰۔ بینک کا قبول کرنا (Bank's Acceptance)

جب کلائٹ بینک کو مطلوبہ سامان خریدنے کی آفر کرتا ہے تو بینک اس آفر کو قبول (Accept) کرتا ہے جس کی وجہ سے مراہجہ کا عقد (Contract) مکمل ہو جاتا ہے۔

کلائٹ کی آفر کے بعد بینک کی طرف جلد از جلد آنے Acceptance ضروری ہے اور بہتر یہ ہے کہ کلائٹ آفر کا ڈاکومنٹ بھیجنے سے پہلے بذریعہ فون بینک کو آفر کر کے بینک سے Acceptance لے لے، اور پھر اسی تاریخ کے مطابق آفر بھیج دے جس کے جواب میں بینک Acceptance کے ڈاکومنٹ پر دستخط کر دے۔

چونکہ کنفرمیشن اور ایجاد و قبول (Offer & Acceptance) کے معاملات بنیادی نوعیت کے ہیں۔ اس لئے ان ڈاکومینٹس کے نمونے (Specimen) بھی دیے جاتے ہیں۔

ہر بینک کے لئے ہو بہو انہی کے الفاظ کے ساتھ مذکورہ ڈاکومینٹس بنانا ضروری نہیں۔ صرف ایسے الفاظ ہونا ضروری ہیں جن سے وہ مفہوم ادا ہو جائے جو ان ڈاکومینٹس میں ذکر کردہ الفاظ سے ادا ہو جاتا ہے۔

## نمونہ

(Part-I)

### CONFIRMATION OF GOODS PURCHASED

Date \_\_\_\_\_

Messrs: \_\_\_\_\_

With reference to the Agency Agreement dated \_\_\_\_\_ and the Bank's Instructions contained in Exhibit, we hereby declare and certify that acting as your Agent, we have used the sum of Rs \_\_\_\_\_ credited to our account No. \_\_\_\_\_ value \_\_\_\_\_ paid by your goodselves to M/s \_\_\_\_\_ and purchased on your behalf the Goods as detailed in Exhibit.

A sum of Rs. \_\_\_\_\_ has been incurred for the purchase of the Goods which are in my/our possession at the following address: \_\_\_\_\_

Copies of bill/cash memo/invoice issued by M/s \_\_\_\_\_ are attached.

For and on behalf of [Agent's name]

**AUTHORISED SIGNATORY**

(Part-II)

OFFER TO PURCHASE

I/We offer to purchase the above Goods from you for a price of Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only).

I/We undertake to pay the Purchase Price referred to above in lump sum on \_\_\_\_\_ or in installments, if agreed by the Bank, as per the attached schedule (Exhibit).

For and on behalf of [Insert Customer's name]

---

AUTHORISED SIGNATORY

## (Part-III)

BANK'S ACCEPTANCE

We have accepted your offer and have sold the above-mentioned Goods to you on the following terms and conditions.

- 1) The Purchase Price is Pak Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only) comprising cost incurred Rs. \_\_\_\_\_, plus profit Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_).
- 2) The Purchase Price stated above shall be payable in lump sum on \_\_\_\_\_ or in \_\_\_\_\_ installments, as per the attached schedule (Exhibit)

For and on behalf of the bank.

---

AUTHORISED SIGNATORY

Date:

---

AUTHORISED SIGNATORY

Date:

## ۱۱۔ ادیگی کا شیڈول

### (Schedule of Payment of Purchase Price)

اس ڈاؤمنٹ پر ادیگی کا طریقہ لکھا جاتا ہے کہ کلاسٹ یکمشت ادیگی کریگا یا قطou (Installments) کی شکل میں کریگا۔ اگر قطou کی شکل میں کریگا تو ہر مہینے کی کوئی تاریخ کو قسط ادا کریگا وغیرہ۔

### ۱۲۔ پرمیسری نوٹ (Promissory Note)

یہ بھی ایک طرح کا ضمانت نامہ ہوتا ہے جس میں کلاسٹ وعدہ کرتا ہے کہ اپنے اوپر واجب الاداء قرض ادا کریگا۔ اس کا نمونہ درج ذیل ہے۔

#### PROMISSORY NOTE

Rs. \_\_\_\_\_

KARACHI \_\_\_\_\_

On demand, I/We, M/s \_\_\_\_\_ Karachi,  
promise to pay \_\_\_\_\_ or  
order the sum of Rs \_\_\_\_\_ (Rupees

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_)

for value consideration received.

Date: \_\_\_\_\_

Executant

### ۱۳۔ سیکورٹی کے کاغذات (Documents of Security)

چونکہ بینک پر میری نوٹ کے علاوہ کائنٹ سے اور بھی مختلف طرح کی  
ضمانتیں (Securities) لیتا ہے جن کی تفصیل "عدم ادائیگی کا خطرہ" ("Risk  
of Default") کے عنوان کے تحت گذر چکی ہے۔ اسلئے ان کے ڈاکومینٹس کو بھی  
استعمال کیا جاتا ہے اگرچہ سیکورٹی کی بہت سی اقسام ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ بینک ہر  
ٹرانزیکشن میں ہر قسم کی سیکورٹی لے بلکہ معاملے کی نوعیت (Nature of the Case)  
کو دیکھ کر اسی کے مطابق سیکورٹی لی جاتی ہے۔

#### مراہجہ کے ڈاکومینٹس پُر (Fill) کرنے کی ترتیب:

چونکہ مراہجہ کی ٹرانزیکشن سودی قرضہ کی طرح نہیں ہے کہ ایک ساتھ  
سارے کاغذات پر دستخط کرو اک قرضہ جاری کر دیا جائے بلکہ اس میں مختلف اوقات میں  
مختلف معاملات ہوتے ہوتے ہیں، اسلئے انہی معاملات کی ترتیب سے مراہجہ کے  
ڈاکومینٹس پُر (Fill) کرنا چاہئے۔

اصل بات تو یہ ہے کہ مراہجہ کے ڈاکومینٹس اسی ترتیب سے پُر کئے جائیں،  
جس ترتیب سے انہیں ذکر کیا گیا یعنی سب سے پہلے کائنٹ کی درخواست آئے، اس  
کے بعد کریڈٹ پروپوزل تیار ہو، پھر جز ل ایگر یمنٹ پر بینک اور کائنٹ دونوں کے  
دستخط ہوں، اگر کائنٹ سپلائر متعین کر کے آیا ہے تو لیٹر آف گارنٹی پر دستخط کرے، پھر  
ایجنٹی ایگر یمنٹ تیار کیا جائے۔ (لیٹر آف گارنٹی پہلے تیار ہو یا ایجنٹی ایگر یمنٹ، اس  
سے کوئی فرق نہیں پڑتا) اس کے بعد کائنٹ کی طرف سے اوکل پر چیز آرڈر دیا جائے

اور بینک کی طرف سے خریداری کا اجازت نامہ (ڈاکومنٹ نمبرے) دیا جائے۔ پھر جب کلائنٹ خریداری کر لے تو وہ بینک کو کنفرمیشن دے، اس کے ساتھ ساتھ مطلوبہ سامان خریدنے کیلئے آفر بھی کرے جسے بینک قبول (Accept) کرے اور پھر ادائیگی کا شیڈول تیار کیا جائے اور عدم ادائیگی کے خطرہ ("Risk of Default") کو دور کرنے کے لئے پرمیسری نوٹ اور دیگر سیکوریٹریز کیلئے ڈاکومینٹس تیار کئے جائیں۔

لیکن اس ترتیب پر مکمل طور پر عمل کرنا ضروری نہیں بلکہ اس میں کچھ تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اصولی طور پر مراجعہ کے ڈاکومینٹس کا دو مرحلہ (Stages) میں پڑھونا ضروری ہے۔

### پہلا مرحلہ: (First Stage)

پہلے مرحلے میں درج ذیل ڈاکومینٹس پر بینک یا کلائنٹ یا دونوں کے دستخط (جیسا مطلوب ہو) کرائے جاسکتے ہیں۔

۱۔ جزء ایگریمنٹ (General/Facility Agreement)

۲۔ لیٹر آف گارنٹی (Letter of Guaranty)

۳۔ ایجنسی ایگریمنٹ (Agency Agreement)

۴۔ لوکل پر چیز آرڈر (Local Purchase Order)

۵۔ بینک کی طرف سے خریداری کا اجازت نامہ

(Bank's Instruction to the Agent)

۶۔ پرمیسری نوٹ (Promissory Note)

۷۔ سیکورٹی کے کاغذات (Documents of Security)

## (Second Stage): دوسرا مرحلہ:

اس مرحلے کے بعد جب کائنٹ خریداری کر لے تو اس وقت درج ذیل تین ڈاکومینٹس تیار کئے جائیں گے۔

۱۔ خریداری کی تصدیق (Confirmation of Purchase)

۲۔ ایجاد برائے خریداری (Offer to Purchase)

۳۔ بینک کا قبول کرنا (Bank's Acceptance)

اگر اس دوسرے مرحلے کے تمام ڈاکومینٹس مطلوبہ سامان کی خریداری سے پہلے تیار کرنے گئے تو مراہجہ غلط ہو جائیگا۔ اس لئے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ البتہ اگر خریداری کے وقت کائنٹ کی طرف سے کسی ایسے شخص نے ان ڈاکومینٹس پر مستخط کرنے ہوں جس کا خریداری کے فوراً بعد ملنا مشکل ہو جیسے کمپنی کا ڈائریکٹر تو اس صورت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ کنفریشن اور آفر کے ڈاکومینٹس پر ڈائریکٹر کے مستخط کروالئے جائیں لیکن یہ کاغذات کمپنی ہی کے پاس رہیں، بینک والوں کو ہرگز نہ دیئے جائیں پھر جس روز خریداری ہو، اسی روز انہیں پُر (Fill) کر کے اور اس دن کی تاریخ ڈال کر انہیں بینک کے حوالے کیا جائے اور پھر بینک اسی روز Acceptance کر لے تو ایسا کرنے کی بھی گنجائش ہے۔

### امپورٹ مراہجہ میں :

گذشتہ ساری تفصیل لوکل مراہجہ سے متعلق تھی، امپورٹ مراہجہ میں بنیادی اضافی چیز ایل۔سی ہوتی ہے، اسلئے اس کے ڈاکومینٹس تیار کرنے کی ترتیب وہی ہے جو لوکل مراہجہ میں گذری البتہ جزل ایگر یمنٹ ہونے کے بعد جب ایل سی کھولی جائے تو اس کے ساتھ ہی ایجنٹسی ایگر یمنٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر ایل۔ اسی کھولنے کے بعد ایجنٹسی ایگر یمنٹ کیا گیا تو بینک اس سامان میں مراہجہ نہیں کر سکتا۔



## سوالات و جوابات



## سوالات و جوابات

مراجع کے طریقہ کار سے متعلق ضروری تفصیل ذکر کرنے کے بعد ان سوالات اور ان کے جوابات کو ذکر کیا جاتا ہے جو عام طور پر ایک عام آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور حقیقت سے باخبر نہ ہونے کی وجہ سے بعض غلط فہمیوں کا باعث بنتے ہیں۔

### مراجع اور عام مع (Sale) میں فرق

سوال نمبر ۱:

مراجع اور عام مع (Sale) میں کیا فرق ہے؟

جواب:

مراجع کے اندر یہ ضروری ہے کہ یعنی والا شخص یہ بتائے کہ اس سامان پر میری اتنی لگت آئی ہے اور میں اس پر اتنا نفع رکھ کر آپ کو نیچ ربا ہوں جبکہ عام مع (جسے عربی میں عقد مساومہ کہتے ہیں) میں یہ تفصیل بتانا ضروری نہیں۔

کیا یہ کان کو ادھر کے بجائے ادھر سے پکڑنے والی بات ہے؟

### سوال نمبر ۲:

کلائنٹ سودی قرضہ حاصل کرے یا کسی اسلامی بینک سے مراجعہ حاصل کرے، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی نکتا ہے مثلاً بینک سے سوروپے قرض لے اور اس پر دس روپے سود دے یا اسلامی بینک سے سوروپے کی چیز مراجعہ کے ذریعے لے اور اسے ایک سو دس روپے واپس کرے، اس کے لئے دونوں برابر ہیں ۔ یہ ایک معاملہ جائز اور دوسرا ناجائز کیوں؟ کیا یہ کان کو ادھر کے بجائے ادھر سے پکڑنے والی بات نہیں۔

### جواب:

اگر صرف نتیجہ پر نگاہ رکھی جائے اور دونوں معاملات کی حقیقت پر غور نہ کیا جائے تو بظاہر دونوں معاملات میں فرق نظر نہیں آتا لیکن دونوں معاملات کو گہری نظر سے دیکھنے کے بعد دونوں میں واضح فرق نظر آتا ہے۔

اس فرق کو بیان کرنے سے پہلے یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ کونی سے دو معاملات کا محض نتیجہ ایک جیسا ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو اور ان کا شرعی حکم بھی ایک ہو۔ اس بات کو درج ذیل دو مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے:

۱۔ ایک شخص کوئی جانور ذبح کرتا ہے لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا اس کے برعکس دوسرا مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام لیکر جانور ذبح کرتا ہے پھر دونوں کو کاثر مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لئے لاایا جاتا ہے اب دیکھنے میں تو دونوں قسم کے گوشت

میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اور ان دونوں کا نتیجہ ایک ہے لیکن اس پرے معاملے کو جانے والا انسان یہی کہے گا کہ پہلے جانور کا گوشت حرام ہے جبکہ دوسرے جانور کا گوشت حلال ہے۔

۲۔ ایک شخص کسی عورت سے بدکاری کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جبکہ دوسرا شخص دو گواہوں کی موجودگی میں کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس مثال میں اگرچہ نتیجہ دونوں کا ایک ہے لیکن اصل واقعہ کو جانے والا ہر مسلمان پہلے معاملے کو ناجائز اور حرام کہے گا جبکہ دوسرے عقد کو جائز قرار دیگا۔

اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ شخص دو معاملات کا نتیجہ کے اعتبار سے یکساں ہو جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دونوں کا شرعی حکم ایک ہو۔

مذکورہ دو مثالیں عام معاملات کی تھیں، اب ہم تجارتی معاملے کی ایک ایسی مثال ذکر کرتے ہیں جو سودی معاملے اور مرادی سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے اور اس سے اصل حقیقت بالکل واضح ہو جائیگی، ان شاء اللہ۔

زید کو سوروپے کی ضرورت ہے وہ خالد سے قرض مانگتا ہے خالد کہتا ہے کہ میں تمہیں سوروپے کا قرض اس شرط پر دیتا ہوں کہ تم مجھے ایک سو پانچ روپے ایک ماہ بعد واپس کرو گے، زید مذکورہ شرط پر سوروپے قرض لیتا ہے، بکر کو بھی سوروپے کی ضرورت ہے وہ احمد سے یہ رقم مانگتا ہے احمد اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو اس رقم کی کیوں ضرورت ہے بکر بتلاتا ہے کہ میرے گھر میں مهمان آئے ہوئے ہیں ان کے لئے پھل خریدنے ہیں، احمد سے نقد رقم دینے کے بجائے بازار سے سوروپے کے پھل خریدتا ہے اور بکر کے ہاتھ ایک سو پانچ روپے میں بیچ دیتا ہے۔

مذکورہ بالا دونوں معاملات میں نتیجہ ایک ہے یعنی جس طرح پہلے معاملے کے نتیجے میں زید پر خالد کا ایک سو پانچ روپے قرض واجب ہوا ہے، اسی طرح دوسرا معاملے کے نتیجے میں بھی بکر پر احمد کا ایک سو پانچ روپے قرض واجب ہوا ہے لیکن شرعی نقطہ نظر سے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔

پہلی صورت میں زید نے سوروپے کا قرض اس شرط پر دیا ہے کہ خالد اسے اس کے بد لے ایک سو پانچ روپے دینے کا پابند ہوگا، یہ معاملہ سودی قرضے کا ہے جبکہ دوسرا صورت میں بکر نے احمد کو کوئی قرضہ نہیں دیا بلکہ سوروپے کا سامان مارکیٹ سے خرید کر ایک سو پانچ روپے کے بد لے فروخت کیا ہے، یہ معاملہ بیع (Sale) کا ہے ظاہر ہے کہ کم قیمت پر کوئی چیز خرید کر زیادہ قیمت پر بیچنا جائز ہے۔ مارکیٹ میں بیٹھا دوکاندار بھی یہی کرتا ہے کہ کم قیمت پر سامان خرید کر زیادہ قیمت پر بیچ کر نفع کرتا ہے جبکہ پہلی صورت میں سوروپے کا قرضہ دے کر اس پر پانچ روپے سود وصول کیا گیا ہے جو کہ حرام ہے۔

چونکہ سودی قرض اور بیع دونوں معاملات کا نتیجہ ایک ہی نکتا ہے (اگرچہ دونوں معاملات کی حقیقت بالکل مختلف ہے) اسلئے مشرکین مکہ نے سود کی حرمت نازل ہونے پر اعتراض کیا کہ:

انما البيع مثل الربو'

بیع بھی سود کی طرح ہے۔

یعنی نتیجہ کے اعتبار سے سود اور بیع (خرید و فروخت) میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

احلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَ حَرَمَ الرَّبُوُّ

اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔

یعنی اگرچہ نتیجہ دونوں کا ایک ہے لیکن چونکہ دونوں کی اصل حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے اس لئے بعج تو حلال ہے جبکہ سود حرام ہے۔

مرا بح بھی بعج کی ایک قسم ہے لہذا یہ بھی مذکورہ بالاقرآنی حکم میں داخل ہونے کی وجہ سے حلال ہے جبکہ سودی قرض کا لین دین حرام ہے اگرچہ دیکھنے میں دونوں کا نتیجہ ایک ہی نظر کیوں نہ آئے۔

کیا اسلامی بینک خرید و فروخت کا کام بھی کرتا ہے؟

### سوال نمبر ۳:

اگر مرا بح بعج (Sale) کی ایک قسم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی بینک اشیاء کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتا ہے حالانکہ بینک کی حقیقت یہ ہے کہ:

Bank deals in documents only.

بینک صرف کاغذی کارروائی کی حد تک معاملات میں دخیل ہوتا ہے۔

تو ہم یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ کاغذی کارروائی سے بڑھ کر اشیاء کی خرید و فروخت کا معاملہ بھی کرتا ہے۔

### جواب:

مذکورہ بالا حقیقت روایتی بینک (Conventional Bank) کی ہے، اسلامی بینک کی نہیں، اسلامی بینک کو اس سے بڑھ کر خرید و فروخت کا کام بھی کرنا پڑتا ہے چنانچہ مرا بح میں اسلامی بینک سامان مارکیٹ سے خرید کر کلاسٹ کو فروخت کرتا ہے۔

کیا خرید و فروخت کیلئے با قاعدہ دوکان ہونا ضروری ہے؟

سوال نمبر ۳:

جو شخص اشیاء کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بڑی مارکیٹ سے سامان خرید کر لاتا ہے اسے اپنی دوکان میں رکھتا ہے پھر دوکان کھول کر بیٹھتا ہے اور آنے والے گاہوں کو سامان بیچتا ہے جبکہ یہ سب کچھ اسلامی بینک میں نظر نہیں آتا بلکہ ایک اسلامی بینک بھی اندر سے ویسا ہی نظر آتا ہے جیسا روایتی بینک ہوتا ہے تو ہم یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ اسلامی بینک خرید و فروخت کا کام بھی کرتا ہے؟

جواب:

پہلی بات تو یہ ہے کہ سامان خرید کر آگے بیچنے کے لئے شرعاً یہ ضروری نہیں کہ اس کے لئے با قاعدہ دوکان بنائی، بلکہ اس کے بغیر بھی اگر کوئی شخص بیع (Sale) کی شرائط پوری کرتے ہوئے کوئی سامان خرید کر آگے فروخت کرتا ہے تو اس کا یہ عمل جائز ہے مثلاً زید کی با قاعدہ کوئی دوکان تو نہیں لیکن اس سے جب کوئی شخص کوئی چیز خریدنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں مارکیٹ سے یہ چیز خرید کر لاؤں گا اور پھر اس پر اتنا نفع رکھ کر تمہیں بیچ دوں گا پھر بعد میں زید مطلوبہ چیز خرید کر متعلقہ شخص کو بیچ دیتا ہے تو اس کا یہ عمل ناجائز نہیں بشرطیکہ وہ بیع (Sale) سے متعلق شرعی احکام کو پورا کرے، لہذا اگر اسلامی بینک کائنٹ کے مطالبے پر مارکیٹ سے سامان خرید کر اس پر متعین نفع رکھ کر مراجح کرتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی جائز ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ عام دوکانوں سے عام طور پر بینکزوں یا ہزاروں روپے تک کی خریداری ہوتی ہے اور ایک دوکان کے پاس ایک طرح کی اشیاء ہوتی ہیں جیسے

کلاں تھے مرچنٹ، شو ہاؤس، ریڈی میڈی گارمنٹس اور میڈی یکل اسٹور وغیرہ کی الگ الگ دو کافی نہیں ہیں اور ہر ایک پر صرف متعلقہ سامان دستیاب ہوتا ہے جبکہ اسلامی بینک سے فائناں حاصل کرنے والے کلاں تھے لاکھوں اور کروڑوں روپے تک کی خریداری کرتے ہیں اور مختلف کلاں تھس کو مختلف طرح کا سامان خریدنا ہوتا ہے کیونکہ سارے کلاں تھس کا کاروبار ایک جیسا نہیں ہوتا، لہذا اگر اسلامی بینک کو پہلے سے سامان خرید کر اپنے پاس رکھنے کا پابند بنایا جائے تو اس کا یہ مطلب ہو گا کہ مراجع کی سہولت فراہم کرنے کے لئے ہر اسلامی بینک اربوں بلکہ کھربوں کا پر اسٹور قائم کرے، ظاہر ہے کہ اس طرح کرنا تقریباً ناممکن ہے۔

## بینک مطلوبہ سامان خود کیوں نہیں خریدتا؟

### سوال ۵:

اگر بینک پہلے سے سامان خرید کر اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ جب کوئی کلاں تھ اس کے پاس مراجع حاصل کرنے کے لئے آئے تو خود مارکیٹ سے سامان خرید کر کلاں تھ کو مراجع پر دے جبکہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ اسی کلاں تھ کو کہا جاتا ہے کہ بازار سے مطلوبہ سامان خرید لو، ہم ادا گیگی کر دیں گے۔ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اور کیا یہ طریقہ کنونیشنل بینکوں جیسا نہیں؟

### جواب:

بہتر تو یہی ہے کہ بینک خود مارکیٹ سے سامان خریدے یا کلاں تھ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو خریداری کا وکیل بنائے لیکن درج ذیل وجہ کی بنیاد پر بینک کے لئے عام حالات میں ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا۔

(۱) جو کائنٹ مراد کے ذریعے سامان لینے یعنی آتا ہے وہ اپنی مطلوبہ ترجیحات اور صفات (Specifications) کے مطابق سامان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بینک کے پاس اس سامان کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ماہرین نہیں ہوتے تو بینک یہ رسک لینے کے بجائے کہ پہلے وہ خود سامان خریدے اور اس کے لینے کے بعد کائنٹ کہہ دے کہ یہ میری بیان کردہ صفات (Specification) اور ترجیحات کے مطابق نہیں اور پھر بینک کو وہ چیز واپس کرنی پڑے۔ لہذا بینک اسی شخص کو خریداری کا وکیل بنادیتا ہے۔

(۲) اگر بینک خود خریداری کرتا ہے تو پھر خریداری کی انوائیس (Invoice) بھی بینک کے نام آئیگی تو اس پر نیکس لاگو ہوگا جس کی وجہ سے مطلوبہ سامان کی قیمت بڑھ جائیگی اور اسلامی بینک کونیشل بینک کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس کی تفصیل ”مطلوبہ سامان کی خریداری“ کے ذیل میں گذر چکی ہے۔

ان مشکلات کی وجہ سے بینک براہ راست خریداری نہیں کرتا اور اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ کائنٹ کو خریداری کا وکیل بنائے۔

اسلامی بینک سے مراد کے حاصل کرنے والا شخص جب مارکیٹ سے مطلوبہ سامان خریدنے جاتا ہے تو وہ اپنے لئے نہیں خریدتا بلکہ بینک کے لئے خریدتا ہے چنانچہ اس خریداری کے بعد وہ سامان کا مالک نہیں بنتا بلکہ اس کا مالک بینک ہوتا ہے پھر جب تک وہ مطلوبہ سامان بینک سے خریدنے لے اس وقت تک وہ سامان بینک کے رسک (Risk) میں رہتا ہے۔

جبکہ کونیشل بینک کے ذریعے اگر کوئی سامان خریدا جائے تو وہ شروع ہی سے کائنٹ کی ملکیت میں آتا ہے کیونکہ وہاں سامان کا خریدار کائنٹ ہوتا ہے، بینک نہیں ہوتا، بینک محض کائنٹ کو قرض دیتا ہے۔ اب اگر یہ کونیشل بینک مطلوبہ رقم براہ راست

کلائنٹ کو دیتا ہے تو اس کا قرض ہونا بالکل واضح ہے اور اگر سپلائر کو ادائیگی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ کلائنٹ نے سپلائر سے اپنے لئے خریداری کی۔ اس کی ادائیگی خود کرنے کے بجائے بینک کی طرف منتقل (Transfer) کر دی بینک نے کلائنٹ کی طرف سے ادائیگی کر کے اس سے زیادہ رقم (اصل رقم بمعہ اضافہ) وصول کی، شرعی نقطہ نظر سے اس کی وضاحت اس طرح ہو گی کہ جب کلائنٹ نے مارکیٹ سے سامان خریدا تو اس پر اس سامان کی قیمت قرض ہو گئی جب کوئی پیشہ بینک نے اسکا یہ قرض سپلائر کو ادا کیا تو بینک کی اتنی رقم کلائنٹ کے ذمہ قرض ہو گئی ہے (۱) (اس کی واضح مثال ”کریڈٹ کارڈ“ کے اس میں بھی کارڈ ہولڈر اپنے لئے خریداری کرتا ہے اور بینک اس کی طرف سے سپلائر کو ادائیگی کرتا ہے جو کہ کارڈ ہولڈر پر قرض ہو جاتی ہے) اور بینک یہ قرض اس شرط پر دیتا ہے کہ کلائنٹ اس پر کچھ اضافے کے ساتھ واپس کریگا۔ یہی سود ہے جو کہ حرام ہے۔

اسلامی بینک میں چونکہ خریدار بینک ہوتا ہے اسلئے بینک کی طرف سے سپلائر کو محض قیمت کی ادائیگی سے کلائنٹ کے ذمہ کوئی قرض واجب نہیں ہوتا بلکہ خریداری کے بعد جب اسلامی بینک کلائنٹ کو نفع کے ساتھ مطلوبہ سامان فروخت کرتا ہے تو یہ قیمت کلائنٹ پر بینک کا قرض ہوتی ہے جسے وہ قسطوں میں (یا یکمشت) ادا کرتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ پسندیدہ اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ بینک خود خریداری کرے یا کلائنٹ کے علاوہ کسی اور کو خریداری کا وکیل بنائے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کلائنٹ کو خریداری کا وکیل بنائے تو اس کی بھی گنجائش ہے اور پھر بھی یہ طریقہ کوئی پیشہ بینک کے سودی معاملے سے مختلف ہے۔

(۱) یونکہ یہ عقد حوالہ (Transfer) ہے اور عقد حوالہ میں جب محل علیہ (Payer) میل (Transferor) کی طرف سے محل (Transferee) کو قرض ادا کرتا ہے تو وہ میل پر قرض ہوتا ہے۔

## کیا مراہجہ کرنے سے پہلے ضمانت (Collaterals) لی جا سکتی ہیں؟ سوال ۶:

اسلامی بینک کا کلائنٹ کے ذمہ قرض تو مراہجہ ہونے کے بعد ہوتا ہے لیکن وہ شروع ہی سے کلائنٹ سے مختلف ضمانت (Collaterals) جیسے رہن (Pledge) وغیرہ لے لیتا ہے تو کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟

جواب:

فقہاء کرام نے اسکی اجازت دی ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ میں تم کو اتنی رقم قرض دوں گا بشرطیکہ تم ابھی میرے پاس رہن رکھوا تو ایسا کرنا جائز ہے۔<sup>(۱)</sup>

اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرعاً اس بات کی گنجائش ہے کہ مقرض پر قرض واجب ہونے سے پہلے اس سے قرض کی ادائیگی کے لئے ضمانت لی جائے۔ مراہجہ ہونے کے بعد کلائنٹ بھی بینک کا مقرض (Debtor) ہو جاتا ہے لہذا اسکی بنیاد پر مراہجہ کے اندر بھی یہ اجازت دی گئی ہے کہ بینک مراہجہ کا عقد کرنے سے پہلے اپنے کلائنٹ سے ضمانت (Collateral) لے سکتا ہے۔

مزید برآں بینکوں کے ذریعے مراہجہ کے معاملات میں عملیت پسندی کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ ضمانت پہلے لے لی جائیں۔ بصورت دیگر منظور شدہ Limit کے ذیل میں کئے جانیوالے ہر معاملے کے وقت ضمانت لینے اور اس سے متعلق قانونی کارروائی کرنا دونوں فریقوں کے لئے باعث دقت ہوگا۔ اگر کلائنٹ بر وقت ضمانت نہ

(۱) بداع المصائب ج ۲ ص ۱۴۲، حاشیۃ تلہ سوقی علی الشرح الكبير ج ۳ ص ۲۴۵۔

دے یا ٹال مٹول سے کام لے تو بینک کے لئے سامان رکھنے کا بندوبست کرنا اور اس کو دیگر ذرائع سے فروخت کرنیکلی اضافی ذمہ داری بھی اپنے سر لینا ہوگی۔ ہونے کو تو یہ کام ہو جائیں گے لیکن اسلامی بینکوں کے انتظامی اخراجات سودی بینکوں کے مقابلے میں بڑھ جائیں گے۔ اس کے سبب یا تو ان بینکوں کی شرح منافع کم ہو جائیکلی یا ان کو مسابقت کی خاطر یہ اس حد تک بڑھانا پڑے گی کہ مراجع کی سہولت حاصل کرنیوالے کلائنٹ مروجہ شرح سود سے زیادہ منافع دیں جو ان کیلئے اسلامی بینکاری کی کشش کو ختم نہیں تو کم کرنے کا باعث تو ضرور ہوگا۔

**کیا شرح سود کو معیار (Benchmark) بنانا جائز ہے؟**

**سوال ۷:**

آجکل اسلامی بینک مراجع فناں میں شرح سود (Interest Rate) جیسے پاکستان میں کابور (KIBOR) کو بنیاد بنا کر فناں دیتا ہے اور کنوپشنل بینک بھی ایسا ہی کرتا ہے؟ تو کیا اسلامی بینک کے لئے ایسا کرنا جائز ہے؟

**جواب:**

گذشتہ تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلامی بینک کا مراجع کے ذریعے فناں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک چیز کم قیمت پر خرید کر زیادہ قیمت پر فروخت کرتا ہے لہذا مراجع فناں میں شرح سود کو درمیان میں لانے کا مطلب یہ ہو گا کہ اسلامی بینک نے سامان کی فروختگی میں نفع تعین کرنے کے لئے شرح سود (Interest Rate) کو معیار (Bench Mark) بنایا۔

بلاشبہ اسلامی بینک کیلئے اپنے نفع کے تعین کیلئے شرح سود کو معیار (Bench Mark) بنانا پسندیدہ نہیں کیونکہ سطحی نظر سے دیکھنے والا شخص ان دونوں کے درمیان فرق

نہیں سمجھ پاتا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ایک بیع کے اندر اسکی تمام شرائط پوری کردی جائیں تو محض نفع کے تعین کے لئے شرح سود کو بیش مارک کے طور پر استعمال کرنے سے عقد ناجائز نہیں ہوتا۔

اسے بذریعہ مثال اس طرح واضح کیا جاسکتا ہے، زید اور خالد دو بھائی ہیں۔ زید لوگوں کو سودی قرضے دیتا ہے جبکہ خالد کی گارمنٹس کی دکان ہے۔ زید کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے قرضہ مانگے تو وہ یہ قرضہ اس شرط پر دیتا ہے کہ مقروض اسے ہر سوروپے پر دس (۱۰) روپے سود دیگا۔

خالد کہتا ہے کہ میں اپنے گارمنٹس کے کاروبار میں کم از کم اتنا نفع حاصل کروں گا جتنا میرا بھائی سود لیتا ہے چنانچہ وہ اپنی اشیاء پر دس فیصد نفع لیکر آگے فروخت کرتا ہے مثلاً اگر کسی چیز کی لاگت سوروپے ہے تو وہ اسے ایک سو دس روپے میں فروخت کرتا ہے۔

اگرچہ خالد کیلئے ایسا کرنا پسندیدہ نہیں لیکن اگر وہ خرید و فروخت کی تمام شرائط پوری کر لیتا ہے تو محض اس وجہ سے اس کے کاروبار کو ناجائز نہیں کہا جائیگا کہ اس نے اپنے سامان پر اس شرح سے نفع کیوں لیا جس شرح سے اس کے بھائی نے دیے گئے قرضے پر سود لیا۔ اسی طرح اگر اسلامی بینک مرا بح میں اسی شرح سے نفع لیتا ہے۔ جس شرح سے کوئی نشانہ بینک سودی قرضے پر سود وصول کرتا ہے تو محض اتنی مشابہت کی وجہ سے مرا بح ناجائز نہیں ہوگا۔ البتہ چونکہ یہ مشابہت پسندیدہ نہیں، اسلئے اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اسلامی بینکوں کی حیثیت عام دکانداروں کی سی نہیں ہوتی کہ جس کے جی میں جو آئے، وہ اتنا نفع لیکر سامان فروخت

کرے بلکہ یہ ایک بہت بڑا مالیاتی ادارہ (Financial Institution) ہوتا ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ کسی فناں میں نفع کی شرح معین کرنے کیلئے کسی نہ کسی فارمولے کو بنیاد بنائے۔ چونکہ اس وقت مارکیٹ میں کنوبائل بینکوں کی کثرت ہے، اور انکے لئے مارکیٹ فناں کا فارمولہ بینکوں کی باہمی شرح سود جیسے کا بہور کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ فی الحال اسلامی بینک اسی کو استعمال کر رہے ہیں۔ (۱)

تاہم اگر اسلامی بینکوں کی تعداد اتنی ہو جائے کہ وہ اپنی ایک مارکیٹ بنائیں اور اس میں شرعی اصولوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نفع دینے کی کوئی ایسی صورت بن جائے کہ اس نفع کی شرح کو اسلامی بینکوں کی فناں کیلئے معیار (Bench Mark) بنایا جا سکے تو اس وقت اسلامی بینک اس قابل ہو جائیں گے کہ سودی شرح (Interest Rate) سے نجات حاصل کر کے اسلامی شرح نفع کی بنیاد پر فناں کریں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی بینک اور مالیاتی ادارے اپنی انٹربینک مارکیٹ تشکیل دیں جو اسلامی اصولوں پر مبنی ہو، اس مقصد کے حصول کیلئے ایک مشترکہ شعبہ بنایا جاسکتا ہے جو کہ حقیقی اثاثوں پر مبنی قابل تبادلہ دستاویز (Transferable Documents) میں سرمایہ کاری (Investment) کرے جیسے اجارہ کی بنیاد پر۔ مثلاً مختلف اسلامی بینکوں نے اپنے جو جامد اثاثہ جات (Fixed Assets) اجارے پر دیئے ہوں، وہ ان کے صکوک (Sukook) جاری کریں، ان صکوک کی خرید و فروخت ان اثاثوں کی مالیت کی بنیاد پر ہو، جو ان کی پشت پر ہیں، ان کا تعین

(۱) اگر کوئی بینک KIBOR+3% کے ساتھ فناں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے کنوبائل بینک جس طرح شرح سود پر ایک دوسرے کو قرضہ دیتے ہیں، اس میں یہ تین فیصد کا اضافہ کر کے اس بینک نے اپنے کائنٹ کو قرضہ دیا۔

وقت و قفعے سے (From time to time) کیا جاسکتا ہے۔ یہ صکوک قابل انتقال (Transferable) ہوں گے، جن بینکوں کے پاس ضرورت سے زیادہ نقد رقم (Liquidity) ہوگی، وہ انہیں خرید سکیں گے، اور جب انہیں دوبارہ نقد رقم کی ضرورت ہوگی تو انہیں بچ سکیں گے۔ اس طرح ایک انٹربینک مارکیٹ وجود میں آجائیگی اور ان صکوک کی مروجہ قیمت کو مراجع اور اجارہ وغیرہ میں نفع کے تعین کے حوالے کے طور پر استعمال کیا جاسکے گا۔

**کیا نفع کی تعین میں مدت کو بنیاد بنا�ا جاسکتا ہے؟**

**سوال ۸:**

اگر کوئی شخص کونیشنل بینک سے قرضہ حاصل کرے تو اگر کم مدت کے لئے ہو تو تھوڑا سود لگتا ہے جتنی مدت بڑھتی جاتی ہے، سود کی مقدار میں بھی اسی حساب سے اضافہ ہو جاتا ہے اور اسلامی بینک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کم مدت مثلاً تین ماہ کے لئے مراجع لیا جائے تو بینک کم نفع لیتا ہے اور اگر زیادہ مدت کے لئے مثلاً چھ ماہ کے لئے مراجع لیا جائے تو بینک زیادہ نفع لیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا نفع کے تعین میں اس طرح مدت کو بنیاد بنا�ا جاسکتا ہے؟ کیا اس طرح یہ معاملہ سودی بینکوں کے معاملات کے مشابہ نہیں ہو جاتا؟

**جواب:**

بنیادی طور پر اس مسئلے کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا نقد کے مقابلے میں ادھار کی صورت میں زیادہ قیمت لگائی جاسکتی ہے یا نہیں؟  
انہیں اربعہ (امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم

اللہ)، جمہور فقہاء کرام اور محدثین عظام کی رائے یہ ہے کہ نقد کے مقابلے میں ادھار کی صورت میں زیادہ قیمت وصول کرنا درج ذیل شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ (۱)

(۱) ادائیگی کی مدت معین ہو۔

(۲) پیچی جانے والی چیز کی قیمت معین ہو۔

(۳) ادائیگی کی مدت اور پیچی جانے والی چیز کی قیمت اسی مجلس میں معین ہو جائے جس مجلس میں اسے بیجا جا رہا ہے۔

(۴) ادائیگی میں معینہ مدت سے تاخیر کی وجہ سے پیچی جانے والی چیز کی قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے۔

اور اسکے جائز ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ شرعاً نفع لینے کی کوئی شرح مقرر نہیں لہذا اگر کوئی شخص ایک چیز نقد کی صورت میں ایک سورپے کی جبکہ ادھار کی صورت میں ایک سو دس روپے کی فروخت کرتا ہے تو اس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ نقد کی صورت میں بھی ایک سو دس روپے کے بدلتے فروخت کرے بشرطیکہ کوئی دھوکہ دہی وغیرہ نہ ہو تو جب وہ نقد اپنی چیز ایک سو دس روپے میں فروخت کر سکتا ہے تو اس کے لئے ادھار کی صورت میں ایک سو دس روپے کے بدلتے فروخت کرنا بھی جائز ہو گا بشرطیکہ وہ مندرجہ بالا شرائط کی پابندی کرے۔

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلامی بینک اگر تین ماہ کے ادھار پر مراجح کرتا ہے اس صورت میں بھی اتنا نفع لے سکتا ہے جتنا وہ چھ ماہ کے مراجح پر لیتا

(۱) ملاحظہ فرمائی: جامع الترمذی، کتاب البيوع، حدیث: ۱۳۳۱، مصنف عبد الرزاق، ج: ۸، ص: ۱۳۶، المبسوط للسرخسی، ج: ۱۲، ص: ۸، حاشیة الدسوقي ج ۳ ص ۵۸، المجموع شرح المهدب ج ۶ ص ۲۲، المعنی لابن قدامة ج ۶ ص ۳۳۲۔

ہے بلکہ نقد مراہج (Spot Murabaha) کے اندر بھی اتنا نفع لینا جائز ہے جتنا چھ ماہ کے مراہج پر لیا جاتا ہے (بشرطیکہ مذکورہ بالاشرائط پائی جائیں) لیکن چونکہ اسلامی بینک بھی بینکنگ مارکیٹ کا ایک حصہ ہے، اسلئے وہ مراہج میں نفع معین کرتے وقت بات پیش نظر رکھتا ہے کہ اگر کلاسٹ کسی کنوپیشنل بینک سے سودی قرضہ فلاں مدت کے لئے حاصل کرے تو اسے کتنا سود دینا پڑیگا، اتنا ہی نفع رکھ کر اسے مراہج پر سامان فروخت کر دیا جاتا ہے، اسلئے کہ اگر یہ بات پیش نظر نہ رکھی جائے تو اسلامی بینک کے نفع کاریٹ کنوپیشنل بینک کی شرح سود سے زیادہ ہو گایا کم ہو جائیگا۔ اگر زیادہ ہو جائے تو اسلامی بینک مارکیٹ کا مقابلہ (Compete) نہیں کر سکے گا اور اگر کم کرے تو خود اسے معاشی میدان میں کافی مسائل کا سامنے کرنا پڑیگا۔

خلاصہ یہ کہ مراہج کی کسی بھی مدت کی فناں کیلئے اسلامی بینک نفع کی کوئی بھی شرح مقرر کر سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں لیکن بینکنگ مارکیٹ کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے اسلامی بینک حلال نفع کیلئے وہی ریٹ لگاتا ہے جو مارکیٹ میں راجح ہے۔

**کیا اسلام میں Time value of money کا اعتبار ہے؟**

**سوال ۹:**

ادھار کی صورت میں زیادہ قیمت وصول کرنے پر خصوصاً مراہج میں فی یوم کے حساب سے نفع کے تعین کرنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں Time value of money کا اعتبار ہے حالانکہ یہ شرعاً ناجائز ہے اور سودی قرض کے ناجائز ہونے کی ایک وجہ بھی یہی تصور ہے۔ اسکی کیا حقیقت ہے؟

## جواب:

روپے کی زمانی قیمت (Time value of money) کا اعتبار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف روپے کی بنیاد پر اضافی قیمت لی جائے اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب دونوں طرف سے عقد کرنی (Currency) پر ہو لیکن جب غیر نقد اشیاء (Assets) کو نقد رقم کے بدلتے گذشتہ سوال کے جواب میں ذکر کردہ شرائط کے مطابق فروخت کیا جائے خواہ مرابحہ میں نفع متعین کرتے وقت دونوں کا اعتبار بھی ہو تو بھی یہ کہنا درست نہیں کہ یہاں Time value of money کا اعتبار کیا گیا ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ ساری رقم خریدی گئی چیز (Purchased Assets) کی قیمت بن جاتی ہے اس روپے کے مقابلے میں نہیں رہتی جس سے بینک نے مطلوبہ سامان خریدا۔

واضح ہو کہ کسی چیز کی قیمت زیادہ ہونے میں کئی عناصر کا داخل ہوتا ہے مثلاً:-  
 (۱) دکاندار (Shopkeeper) خریدار کے گھر کے قریب رہتا ہے اور خریدار دور جانے کے بجائے قریب کے دکاندار سے سامان خریدتا ہے چنانچہ یہ بات روزمرہ مشاہدے کی ہے کہ محلے کی دکان کا ریٹ بڑی مارکیٹ کے ریٹ سے زیادہ ہوتا ہے اور بہت سے خریدار زیادہ سہولت کے پیش نظر کم قیمت پر بڑی مارکیٹ سے سامان خریدنے کے بجائے محلے والی دکان سے زیادہ قیمت پر خرید لیتے ہیں۔

(۲) سامان بیچنے والے کی دکان صفائی سترائی اور دیگر سہولیات اور معیار کے لحاظ سے دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہے تو اس کی وجہ سے بھی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک ہی کھانا اگر ایک عام ہوٹل سے خریدا جائے تو معمولی قیمت میں مل جاتا ہے لیکن اگر اس سے زیادہ معیاری اور آرام دہ ہوٹل سے خریدا جائے تو وہی کھانا مہنگے داموں ملتا ہے۔ اسی طرح پر اسٹور (Super Store) میں اشیاء کے نرخ دیگر

دکانوں کے نرخ (Rate) سے زیادہ ہوتے ہیں۔

(۳) بعض مرتبہ دکاندار خریدار کی نظر میں زیادہ با اعتماد ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دکاندار میرے ساتھ دھوکہ نہیں کریگا، اسلئے اگر اس دکان سے مطلوبہ چیز قدرے مہنگی مل رہی ہو تو بھی وہ یہ سامان ہنسی خوشی اس دکان سے خرید لیتا ہے۔

جس طرح ان عناصر کی وجہ سے زیادہ قیمت وصول کرنا جائز ہے اسی طرح قیمت کی ادائیگی میں مختلف دنوں کا اعتبار کر کے زیادہ قیمت مقرر کرنا بھی جائز ہے کیونکہ اس میں بھی بالع (Seller) خریدار کو ایک اضافی سہولت فراہم کر رہا ہوتا ہے جو نقد پر خریدنے والے کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ زائد رقم صرف اور صرف Time value of money کی وجہ سے نہیں لی جا رہی بلکہ ایک اضافی سہولت کی وجہ سے لی جا رہی ہے۔

اس بات کی واضح دلیل کہ یہ اضافی رقم Time value of money کی وجہ سے نہیں، یہ ہے کہ مثلاً اسلامی بینک کسی اجارہ کے کلائنٹ کے لئے گاڑی بک کرتا ہے یا کسی کلائنٹ کو Advance for Murabaha کے تحت کچھ رقم دیتا ہے، لیکن بعد میں عملاء اجارہ یا مراد بھی نہیں ہو پاتا تو بینک دی گئی اس رقم کے بد لے میں اصل رقم کے علاوہ کچھ نہیں لے سکتا اگر Time value of money کا اعتبار ہوتا تو جتنے دن اسلامی بینک کا سرمایہ سپلائر کے پاس رہا، اسے اتنے دنوں کا نفع لینے کی اجازت دی جاتی لیکن چونکہ اس صورت میں یہ نفع محض رقم کے مقابلے میں آرہا ہوتا ہے، اسلئے اس سے منع کر دیا گیا۔ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ خالص روپ پر مدت گذرنے کی وجہ سے اس پر اضافہ لینا تو Time value of money میں داخل ہے جو کہ ناجائز ہے جبکہ ادھار کی صورت میں یہچے جانے والے سامان کی قیمت میں اضافہ کرنا اس میں داخل نہیں، لہذا یہ صورت جائز ہے۔

کیا اسلامی بینک اپنے کلائنٹ سے جرمانہ لیتا ہے؟

سوال ۱۰:

اگر اسلامی بینک کا کلائنٹ مقررہ وقت پر ادائیگی میں تاخیر کرے تو اگرچہ اسلامی بینک اس سے سو نہیں لیتا، لیکن جرمانہ لیتا ہے۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب:

ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے اسلامی بینک اپنے کلائنٹ سے جرمانہ نہیں لیتا بلکہ درحقیقت یہ وہ صدقہ ہے جو کلائنٹ کے اپنے اوپرالتزام (Undertaking) کرنے کے نتیجہ میں لیا جاتا ہے جب کوئی کلائنٹ اسلامی بینک سے معاملہ کرتا ہے تو وہ اس وقت یہ التزام (Undertaking) کرتا ہے کہ اگر میں نے بروقت ادائیگی نہ کی تو اتنی رقم بینک کے خیراتی فنڈ میں صدقہ کے طور پر دوں گا، گویا اس کا یہ عمل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص یوں کہے کہ اگر مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تو میں اتنی رقم صدقہ کروں گا۔

اور اسلامی بینک اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ اس رقم کو خیراتی فنڈ (Charity Fund) میں شامل کر کے اسے صدقہ کے شرعی مصارف پر خرچ کرے بینک اسے اپنی آمدنی کا حصہ نہیں بنایا سکتا۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ اسلامی بینک ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں اپنے کلائنٹ سے جرمانہ لیتا ہے کیونکہ اگر یہ جرمانہ ہوتا تو بینک کی آمدنی (Income) کا حصہ بنتا۔

کیا زبردستی صدقہ کرانا جائز ہے؟

سوال ۱۱:

اگر کوئی شخص اپنے طور پر یہ نذر مانے کہ ”اگر مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تو اتنی رقم

صدقہ کروں گا، تو اس کا یہ ذاتی عمل ہے۔ اسے اس التزام (Undertaking) کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے کوئی شخص اسے اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا کہ تم فلاں التزام کرو جبکہ اسلامی بینک کے کلائنٹ کو یہ التزام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا بلکہ اس پر لازم ہوتا ہے کہ اگر وہ اسلامی بینک سے معاملہ کرے تو مذکورہ بالا التزام ضرور کرے۔ کیا اس طرح لازمی طور پر صدقہ کرانے کی شرعاً اجازت ہے؟

**جواب:**

کسی غلطی پر صدقہ کا التزام کرنے کی دو صورتیں ہیں:-

(۱) اس غلطی کا تعلق حقوق اللہ سے ہو جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اگر مجھ سے فخر کی جماعت چھوٹ گئی تو میں اتنی رقم صدقہ کروں گا۔

(۲) اس غلطی کا تعلق حقوق العباد سے ہو یعنی اس غلطی کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو فقصان پہنچ سکتا ہو جیسے دو آدمی سفر کریں اور ان میں سے ایک یہ التزام کرے کہ وہ راستے بھر دوسرے ساتھی کو تکلیف نہیں پہنچائیگا۔ اگر اس نے تکلیف پہنچائی تو اتنی رقم صدقہ کریگا۔

جبکہ دوسری صورت کا تعلق ہے تو یہ خالصہ بندے کا اختیاری معاملہ ہے اسے اپنے اوپر التزام کرنے کا اختیار ہے کوئی اور شخص لازمی طور پر اس سے یہ التزام نہیں کر سکتا۔ جبکہ دوسری قسم میں بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں لازمی طور پر التزام کرایا جا سکتا ہے مثلاً زید کی ایک گاڑی ہے وہ اور بکریل کراس پر سفر کرنا چاہتے ہیں، بکر کو ڈرائیور کا بہت شوق ہے، وہ زید سے کہتا ہے کہ گاڑی میں چلاوں گا۔ زید کہتا ہے کہ تمہیں اس شرط پر گاڑی چلانے کی اجازت ہے کہ تم اسے پوری احتیاط سے چلاوے گے بکر وعدہ کرتا ہے، زید مزید احتیاط کے لئے کہتا ہے کہ ”تمہیں یہ گاڑی چلانے کی

اجازت اس شرط پر ہے کہ تم یہ التزام کرو کہ اگر تم نے کوئی بے احتیاطی کی تو اتنی رقم صدقہ کرو گے، بکر شرط قبول کر کے التزام کر لیتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جس طرح زید کیلئے پہلی شرط لگانا جائز ہے اسی طرح دوسری شرط لگانے کی بھی گنجائش ہے کیونکہ دونوں کا مقصد اپنے آپ کو ممکنہ نقصان سے بچانا ہے۔

اس دوسری شرط میں اس اعتبار سے بکر سے لازمی طور پر التزام کرایا گیا ہے کہ اگر وہ زید کی گاڑی استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ یہ التزام کرے کہ بے احتیاطی کرنے کی صورت میں اتنی رقم صدقہ کریگا۔ لیکن اس اعتبار سے یہ لازمی التزام نہیں کہ بکر کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ شرط قبول نہ کر کے زید کی گاڑی نہ چلائے۔

اسلامی بینک بینکنگ مارکیٹ کا ایک حصہ ہے۔ اس کے پاس موجود سرمایہ میں بہت بڑا حصہ ان ڈیپاٹ یٹریز کا ہوتا ہے جو اپنی جمع پونچی لا کر بینک کے پاس جمع کراتے ہیں، بینک اس سرمایہ کے ذریعے اپنے کلائنٹس کو فناں کرتا ہے۔ اگر بینک کلائنٹس کی طرف سے ادائیگی میں تاخیر کا کوئی موثر حل اختیار نہ کرے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس کے کلائنٹس ادائیگی میں تاخیر کرتے رہیں۔ اس طرح ہونے کی صورت میں بینک کو متعدد معاشی مسائل پیش آئیں گے بلکہ خود بینک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائیگا۔

ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو اس ممکنہ نقصان سے بچانے کے لئے اسلامی بینک کے لئے شرعی حدود کے اندر رہ کر کوئی موثر اقدام کرنا ضروری ہے۔

اس کے لئے یہ حل پیش کیا گیا کہ اسلامی بینک سے جب اس کا کوئی کلائنٹ معاهدہ کرنے کے لئے آئے تو بینک اس سے یہ وعدہ لے سکتا ہے کہ کلائنٹ بروقت ادائیگی کریگا اور اسی کے ساتھ کلائنٹ سے یہ التزام بھی کرایا جاتا ہے کہ ”اگر اس نے

بروقت ادا نیگلی نہ کی تو وہ اتنی رقم صدقہ کریگا۔

یہ اتزام بھی اس اعتبار سے لازمی ہے کہ اگر وہ اسلامی بینک سے معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ یہ اتزام کرے لیکن اس اعتبار سے لازمی نہیں ہے کہ اسے اختیار ہے کہ وہ مذکورہ شرط قبول نہ کر کے اسلامی بینک سے معاملہ نہ کرے بلکہ دیگر جائزہ رائع سے مطلوب مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو جس طرح زید کے لئے یہ جائز ہے کہ بکر سے وعدہ لے کہ اگر اس نے زید کی گاڑی چلانے میں بے احتیاطی کی تو اتنی رقم صدقہ کریگا، اسی طرح اسلامی بینک کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ اپنے کائنٹ سے یہ وعدہ لے کہ اگر اس نے ادا نیگلی میں تاخیر کی تو اتنی رقم صدقہ کریگا۔

## کیا صدقہ (Charity) کرنے کی شرط لگانے سے

عقد ناجائز نہیں ہوتا؟

سوال: ۱۲

کیا یہ "بیع بالشرط" (Conditional Sale) نہیں ہے کہ بینک مراد کے ایگر یمنٹ میں کائنٹ پر یہ شرط عائد کرتا ہے کہ وہ یہ اتزام کرے کہ اگر اس نے بروقت ادا نیگلی نہ کی تو اتنی رقم صدقہ کریگا۔ مراد بیع کی ایک قسم ہے۔ اور بیع کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس میں شرط لگانا جائز نہیں یعنی بیع بالشرط (Conditional Sale) جائز نہیں تو یہ شرط لگانے سے مراد ناجائز نہیں ہو جاتا؟

جواب:

مراد کے اندر بروقت ادا نیگلی کو یقینی بنانے کیلئے مذکورہ شرط لگانا ایسا ہی ہے جیسے بینک کائنٹ سے اس شرط پر مراد کرے کہ وہ اسے کوئی ضمانت (Collateral)

فراتم کریگا، ظاہر ہے کہ جس طرح ایسی شرط لگانا جائز ہے، اسی طرح مذکورہ شرط لگانا بھی جائز ہے۔

فائدہ: اس جواب سے یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ بیع کے اندر ہر طرح کی شرط لگانا ناجائز نہیں، بلکہ بعض شرطیں لگانا جائز بھی ہے چنانچہ فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ بیع کے اندر تین طرح کی شرائط لگانا جائز ہے۔

۱۔ وہ شرط جو مقتضائے عقد کے مطابق ہو یعنی خود عقد کی حقیقت اس شرط کے پائے جانے کا تقاضا کرتی ہو جیسے باع (Seller) کوئی چیز اس شرط پر فروخت کرے کہ خریدار جب تک ادا نہیں کریگا، وہ نیچی گئی چیز (Sold Commodity) اس کے حوالے نہیں کریگا۔

۲۔ وہ شرط جو ملائم عقد ہو یعنی اس عقد کو پختہ کرنے کے لئے اس کا لگانا مناسب ہو جیسے کوئی شخص یہ شرط لگائے کہ میں اپنا سامان اس شرط پر ادھار فروخت کروں گا کہ خریدار اس کی قیمت کے بدلے کوئی ضامن (Guarantor) دے یا رہن (Mortgage) رکھوائے۔

۳۔ وہ شرط جو تاجریوں کے عرف میں عقد کے اندر داخل سمجھی جاتی ہو جیسے کوئی شخص بازار سے قالین اس شرط پر خریدے کہ دکاندار یہ قالین خریدار کے ہاں لگا کر بھی دیگا۔ صدقے (Charity) کا التزام (Undertaking) کرانے کی شرط مذکورہ بالا اقسام میں سے دوسری قسم میں داخل ہے، اسلئے یہ جائز ہے۔

کیا صدقہ بینک کے ذریعے کرنا ضروری ہے؟

سوال: ۱۳:

اس میں یہ اتزام بھی کرایا جاتا ہے کہ یہ صدقہ بینک کے واسطے سے ادا کیا جائیگا۔ کیا ایسی شرط لگانے کی اجازت ہے؟

جواب:

بینک کے خیراتی فنڈ میں رقم جمع کرنے کا اتزام محض اس لئے کرایا جاتا ہے تاکہ اس بات کا اطمینان ہو کہ واقعہ کلائنٹ نے یہ صدقہ کیا ہے گویا اس اتزام کے ذریعے کلائنٹ پر کوئی نئی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی بلکہ اسی ذمہ داری کی ادائیگی کو یقینی بنایا جاتا ہے جو پہلے سے اس نے اپنے ذمہ لی ہے اور یہ تدبیر اس لئے اختیار کی گئی ہے تاکہ اس کی وجہ سے بینک کے لئے اپنا قرضہ وصول کرنا آسان ہو گویا یہ شرط لگانا بھی ایسا ہی ہے جیسے کلائنٹ سے کوئی ضمانت (Collateral) لینا ہی وجہ ہے کہ ضمانت کی طرح بینک یہ صدقہ بھی وصول کرنے کے بعد اسے اپنی آمدی میں شامل نہیں کر سکتا بلکہ اسے صدقہ کے شرعی مصارف ہی پر خرچ کرنے کا پابند ہوتا ہے گویا یہ ایک ایسی شرط ہے جو عقد کے ملائم (Relevant) ہے اور گذشتہ تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسی شرط جو عقد کے اندر تاکید پیدا کرتی ہو یا اس کے ملائم ہوا کالگانا جائز ہے۔

کیا یہ اتزام بذریعہ عدالت نافذ کرانا جائز ہے؟

سوال: ۱۴:

اگر کلائنٹ اس اتزام کو پورا نہ کرے تو بینک بذریعہ عدالت اسے نافذ کرانے کا حق رکھتا ہے کیا ایسے اتزام کو بذریعہ عدالت نافذ کرانا جائز ہے؟

جواب:

اگرچہ احناف کے نزدیک تو یہ التزام (Undertaking) پورا کرنا قضاء (بذریعہ عدالت) ضروری نہیں لیکن بعض مالکیہ کے ہاں اسے قضاء (یعنی بذریعہ عدالت) بھی نافذ کرایا جاسکتا ہے چونکہ بینکوں کے معاملات میں اسے بذریعہ عدالت نافذ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس صورت میں مالکیہ کے اس قول کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے (۱) خصوصاً جبکہ اس کا تعلق مالی معاملات سے ہے اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاوی میں ضرورت کے وقت بعض مالی معاملات میں مالکیہ کے قول کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ (۲)

کیا کلائنٹ خود اپنے آپ کو سامان پیچ سکتا ہے؟

سوال ۱۵:

جب کلائنٹ بینک کے وکیل (Agent) ہونے کی حیثیت سے مطلوبہ سامان خرید لیتا ہے، پھر بینک کو اطلاع دیتا ہے، اس کے بعد بینک اسے سامان پیچتا ہے اور وہ خریدتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ بینک کے وکیل ہونے کی حیثیت سے سامان خریدتا ہے، اسی طرح بینک کے وکیل ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیچ دے اور پھر خود ہی خرید لے (یعنی بینک کے وکیل ہونے کی حیثیت سے باائع (Seller) ہو اور خود ذاتی حیثیت (Personal Capacity) میں اسے خرید لے۔

(۱) تحریر الكلام فی مسائل الالتزام، ص ۷۶۔

(۲) امداد الفتاوی، ج ۳، ص ۳۹۵

جواب:

سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ خرید و فروخت میں حقوق اور ذمہ داریاں (Liabilities) موکل (Principal) کے ساتھ ساتھ وکیل کی طرف بھی لوٹتی ہیں مثلاً اگر زید خالد کے وکیل ہونے کی حیثیت سے کوئی سامان خریدتا ہے تو دکاندار جس طرح خالد سے سامان کی قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے اسی طرح زید سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، لہذا اگر وہ زید سے مطالبہ کرے تو اس مطالبے کے بعد زید پر لازم ہوگا کہ وہ اس سامان کی قیمت ادا کرے۔

شریعت کا ایک دوسرا اصول یہ ہے کہ خرید و فروخت کے اندر ایک ہی شخص پر دونوں فریقوں کی ذمہ داریاں نہیں ڈالی جا سکتیں۔

لہذا اندکورہ صورت میں اگر کلاسٹ بینک کے وکیل کی حیثیت سے خود اپنے آپ کو سامان بیچتا ہے تو اسکا یہ مطلب ہوگا کہ اس پر بالع (Seller) اور خریدار (Buyer) دونوں کی ذمہ داریاں ڈال دی گئیں اور ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں لہذا کلاسٹ مطلوبہ سامان کی خریداری کے بعد خود اپنے آپ کو سامان نہیں بیچ سکتا بلکہ اس پر لازم ہے کہ بینک ہی سے باقاعدہ ایجاد و قبول (Offer & Acceptance) کے ذریعے مطلوبہ سامان خریدے۔

کیا انوائس کلاسٹ کے نام بنائی جا سکتی ہے؟

سوال ۱۶:

اگر کلاسٹ بینک کے وکیل کی حیثیت سے خریداری کر رہا ہے اور اصل خریدار بینک ہے تو پھر خریداری کی انوائس بینک کے نام پر ہونی چاہئے حالانکہ عام طور پر یہ

انوائس کلائنٹ کے نام ہوتی ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ خریدار کوئی اور ہوا اور انوائس کسی اور کے نام ہو؟

### جواب:

بہتر تو یہ ہے کہ انوائس بینک کے نام ہو لیکن جیسا کہ مرابحہ کے عملی طریقہ کار کی تفصیل کے ذیل میں بیان کیا گیا کہ اس طرح کرنے سے نیکس کے مسائل پیش آتے ہیں، اسلئے انوائس بھی کلائنٹ کے نام بنائی جاتی ہے۔ اور شرعاً بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ انوائس کلائنٹ کے نام ہو۔ (۱)

اسے بذریعہ مثال یوں سمجھا جا سکتا ہے۔ زید کو ایک کتاب کی ضرورت ہے لیکن وہ خود بازار جا کر خریدنے کے بجائے خالد سے کہتا ہے کہ میرے لئے بازار سے فلاں کتاب خرید کر لاؤ۔

خالد بازار جا کر خریداری کے وقت و و طریقے اختیار کر سکتا ہے۔

(۱) دکاندار سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص کو فلاں کتاب کی ضرورت ہے اور انہوں نے مجھے یہ کتاب خریدنے کے لئے بھیجا ہے۔ آپ براہ کرم مجھے یہ کتاب دیکر فلاں کے نام رسید بنادیں۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دکاندار سے کوئی تفصیل ذکر نہ کرے بلکہ صرف اسے یہ کہے کہ مجھے فلاں کتاب دیدیں۔ دکاندار اسے کتاب دیکر خریداری کی رسید اسی کے نام پر بنادے۔

(۱) یہاں یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ بعض اداروں اور افراد کی کوششوں کے سبب اسلامی بینکوں کے ذریعے کئے جانیوالے مرابحہ کے معاملات کو بعض محصولات (مثلاً سیلز نیکس) سے چھوٹ دیدی گئی ہے۔ اب اگر انوائس بینک کے نام بھی ہو تو بھی کوئی اضافی اخراجات برداشت نہیں کرنا ہوں گے، تاہم انوائس کلائنٹ کے نام بنانے کی گنجائش بہر حال ہے۔

یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور دوسری صورت کے جائز ہونے کی وجہ وہی ہے جو گذشتہ سوال کے جواب میں بیان ہوئی کہ خرید و فروخت کے معاملے میں حقوق و ذمہ داریاں وکیل کی طرف بھی لوٹی ہیں لہذا چونکہ وکیل بھی ادا یعنی کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسلئے اسکے نام انوائس بنانا بھی جائز ہے۔

**کیا قبضہ کئے بغیر مراہج کیا جاسکتا ہے؟**

**سوال ۷:**

کلاسٹ نے بینک کے وکیل کی حیثیت سے سامان خریدا لیکن ابھی تک قبضہ نہیں کیا تھا کہ اسے فوراً آگے بیچنے کی ضرورت پیش آگئی تو کیا اس طرح وہ خریداری کے فوراً بعد قبضہ کرنے سے پہلے بینک سے مراہج کر کے سامان آگے بیچ سکتا ہے۔

**جواب:**

کلاسٹ خریداری کے بعد جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے، اس پر مراہج نہیں ہو سکتا۔ لہذا اسے آگے جلدی فروخت کرنا ہو تو مطلوبہ سامان پر فوری قبضہ کر کے بینک کو اسکی اطلاع (Declaration) دے کہ میں نے آپ کے ایجنت کی حیثیت سے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور پھر ایجاد و قبول (Offer & Acceptance) کے ذریعے اس سامان پر مراہج ہونے کے بعد اسے آگے فروخت کیا جاسکتا ہے۔

**کیا مراہج سے پہلے سامان آگے بیچا جاسکتا ہے؟**

**سوال ۸:**

بعض مرتبہ کلاسٹ سامان پر قبضہ کر لیتا ہے اور اسکے بعد اسے فوری طور پر

خریداری کرنے والا کوئی گاہک مل جاتا ہے، کیا اس کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے گاہک کو بیچنے کے بعد بینک سے مراجع کرے؟

یہ بات پیش نظر ہے کہ بعض دفعہ اس میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ فوری طور پر نہ بیچنے کی صورت میں گاہک ہاتھ سے نکل جاتا ہے جبکہ بینک کو متعلقہ سامان پر قبضہ کرنے کی بذریعہ لیٹر پیڈ اطلاع دینا اور پھر ایجاد و قبول کے کاغذات (Documents) پر دستخط کرانے میں کچھ وقت لگتا ہے خصوصاً جبکہ کائنٹ کی کمپنی کا ڈائریکٹر یا جسے دستخط کرنے کا اختیار ہو وہ بروقت موجود نہ ہو۔

### جواب:

بینک سے مراجع کرنے سے پہلے تو کائنٹ کے لئے یہ سامان آگے بیچنا جائز نہیں کیونکہ مراجع ہونے سے پہلے وہ اس سامان کا مالک نہیں بنا بلکہ ابھی تک یہ سامان بینک کی ملکیت میں ہے۔

جباں تک ذکر کردہ مشکل کا تعلق ہے تو اگر کہیں واقعۃ ایسی مجبوری پیش آجائے تو فوری طور پر تو باقاعدہ کاغذات (Documents) کے ذریعے اطلاع (Declaration) اور ایجاد و قبول کے بجائے زبانی طور پر یہ سب کام کئے جاسکتے ہیں اور اس کے بعد سامان آگے بیچا جا سکتا ہے۔ البتہ بعد میں اسی تاریخ کے مطابق اطلاع اور ایجاد و قبول کے کاغذات پر کرنا ضروری ہیں۔

لیکن یہاں دو باتیں پیش نظر ہنی چاہیں۔

۱۔ صرف مجبوری کے موقع پر ایسا کیا جائے، اسے عام پر یکیش نہ بنایا جائے، اسلئے کہ اگر چہ شرعاً معاملات کا تحریری طور پر انجام دینا ضروری نہیں لیکن بینک کے عرف میں کوئی معاملہ اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تحریری شکل میں نہ ہو نیز آڈیٹر

بھی آڈٹ کرتے وقت کاغذات ہی پر اعتبار کرتا ہے، زبانی گفتگو کا نہیں۔ اگر اسے عام پریکش بنا یا گیا تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ بعض مرتبہ کاغذات صحیح تاریخ کے مطابق پُر (Fill) نہ ہوں جسکی وجہ سے متعدد مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔

۲۔ عام پریکش بنانے کی صورت میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ بعض مرتبہ زبانی طور پر بھی یہ مراحل (Stages) انجام نہ پائیں۔ اگر ایسا ہو اور پھر کلائنٹ نے یہ سامان آگے بیچ دیا تو شرعی اعتبار سے یوں سمجھا جائیگا کہ کلائنٹ نے ایسا سامان فروخت کر دیا ہے جس کا وہ ابھی تک مالک نہیں بنا۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔

اگر مراہجہ سے پہلے کلائنٹ نے سامان بیچ دیا یا استعمال کر کے ختم کر دیا تو کیا حکم ہے؟

### سوال: ۱۹:

گذشتہ سوال و جواب میں اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ مراہجہ ہونے سے پہلے کلائنٹ کے لئے سامان آگے بیچنا جائز نہیں۔ سوال یہ ہے ہاگر کلائنٹ نے ایسا کر دیا تو اس صورت میں شرعی حکم کیا ہے؟

### جواب:

جس طرح کلائنٹ کے لئے سامان مراہجہ کے ذریعے خریدنے سے پہلے آگے فروخت کرنا جائز نہیں اسی طرح اسے اپنے استعمال میں لانا بھی جائز نہیں۔ لہذا مذکورہ دونوں صورتوں میں کوئی بھی صورت ہو یعنی کلائنٹ مراہجہ سے پہلے سامان آگے فروخت کر دے یا اسے استعمال کر کے ختم (Consume) کر دے، دونوں صورتوں میں وہ اس سامان کی بازاری قیمت (Market Value) کا ضامن ہو گا۔

اسے بذریعہ مثال یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ مثلاً بینک نے ایک چیز روپے میں خریدی اور کلائنٹ کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ بینک اسے ایک سو دس روپے میں فروخت کر دیگا لیکن ابھی مراہجہ نہیں ہوا تھا کہ کلائنٹ نے اسے آگے بیچ دیا یا استعمال کر کے ختم (Consume) کر دیا تو دیکھا جائیگا کہ اس وقت مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا ہے۔ فرض کریں کہ مارکیٹ میں اس کی موجودہ قیمت ایک سو پندرہ روپے ہے تو اب کلائنٹ بینک کو ایک سو دس روپے کے بجائے ایک سو پندرہ روپے دینے کا پابند ہو گا۔

کیا وعدہ کو بذریعہ عدالت پورا کرایا جاسکتا ہے؟

### سوال: ۲۰

مراہجہ کرتے وقت بینک سپلائر سے سامان خریدنے سے پہلے کلائنٹ سے یہ وعدہ لیتا ہے کہ اگر بینک نے مطلوبہ سامان خرید لیا تو کلائنٹ پر لازم ہو گا کہ وہ یہ سامان بینک سے خریدے گا۔ یہ وعدہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بینک کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ بذریعہ عدالت پورا کرے۔ نیز اس وعدے کے دوران کلائنٹ یہ بھی التزام (Underatking) کرتا ہے کہ اگر اس نے وعدہ پورا نہ کیا اور بینک کو سامان مارکیٹ میں بیچنا پڑا اور وہ کم قیمت پر فروخت ہوا تو کلائنٹ حقیقی نقصان یعنی قیمت کا فرق (Difference) ادا کر دیگا کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

### جواب:

چونکہ بینک کا معاملہ عام دکانداروں جیسا نہیں کہ وہ سامان رکھ کر بیٹھ جائے اور پھر آنے والے گاہوں کو بیچے، بلکہ وہ صرف اس وقت سامان خریدتا ہے جب کوئی کلائنٹ اس کے سامنے یہ ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ میں آپکے ذریعے سامان خریدنا چاہتا

ہوں۔ اور شرعاً یہ جائز ہے کہ کوئی شخص صرف اس وقت مارکیٹ سے سامان خریدے جب پہلے سے کوئی دوسرا شخص اس سے وہ سامان خریدنے کا وعدہ کرے۔ لہذا بینک کے لئے کلائنٹ سے مذکورہ وعدہ لینا جائز ہے۔

جبکہ تک اس وعدہ کے پورا کرنے کا تعلق ہے تو اس میں تو سب فقهاء کرام کا اتفاق ہے کہ وعدہ پورا کرنا مکارم اخلاق میں داخل ہے اور شرعاً ایک پسندیدہ عمل ہے قرآن مجید میں بھی وعدہ کو پورا کرنے کی تاکید آتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:

أُوفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا أَعْهَدْتُمْ  
كَانَ مَسْئُولًا (بنی اسرائیل)

وعده پورا کرو، بلاشبہ وعدہ کے بارے میں پوچھا جائیگا۔

اور بہت سے حنفی فقهاء کرام نے فرمایا ہے کہ ضرورت کے وقت وعدہ کو قضاۓ یعنی بذریعہ عدالت بھی پورا کرایا جا سکتا ہے۔ (۱)

مذکورہ معاملے میں وعدے کو پورا کرنے کی ضرورت واضح ہے، اس لئے ان جیسے معاملات میں وعدہ کو بذریعہ عدالت نافذ کرانے کی اجازت دی گئی ہے۔

اسلامی بینکوں کو انشورنس کی اجازت کیوں دی گئی؟

## سوال: ۲۱:

امپورٹ مراجع میں عام طور پر باہر سے آنے والے مال کی انشورنس کرائی جاتی ہے، حالانکہ انشورنس کا عقد شرعاً ناجائز ہے۔ اسلامی بینکوں کو اس کی اجازت کیوں دی گئی؟

## جواب:

اسلامک بینکنگ میں جس انشورنس کی ضرورت پڑتی ہے، علماء پاکستان کے

(۱) رد المحتار، ۴، ۱۳۵، الفتاوی الحنفیۃ بہامش الہندیۃ، فصل فی الشروط الفاسدۃ ۱۶۵/۲۰۔

فتاویٰ کے مطابق وہ ہر حال میں ناجائز ہے اور حاجت کے وقت بھی اسے اختیار کرنے کی اجازت نہیں البتہ بعض عرب علماء مالی معاملات میں حاجت کے وقت اس کی اجازت دیتے ہیں۔

اسلامی بینکوں کو فی الحال ضرورت کے وقت انشورنس کرائیکی جواہازت دی گئی ہے وہ ان عرب علماء کے موقف کو اختیار کرتے ہوئے دی گئی ہے کہ جب تک انشورنس کا شرعی تبادل تکافل عملی طور پر ممکن نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کے لئے اپنے اُن اثاثہ جات کی انشورنس کرائیکی گنجائش ہے جس کی انشورنس کرانا قانونی طور پر ضروری ہے، انشورنس کے سلسلے میں عرب علماء کے اس موقف کو اختیار کرائیکی ضرورت پیش آئی کہ قانونی طور پر بند کیلئے اپنے جامد اثاثہ جات کی انشورنس کرانا ضروری ہے اس کے بغیر بینکنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم انشورنس نہ کرائیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اسلامک بینکنگ ہی نہ کریں اور لوگ جس طرح سودی اور دیگر ناجائز معاملات میں بنتا ہیں وہ اسی میں بنتا رہیں۔ جب کہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ جب تک تکافل کی عملی صورت سامنے نہیں آتی اس وقت تک عرب علماء کے مذکورہ موقف کو اختیار کرتے ہوئے عارضی طور پر انشورنس کی اجازت دیدیجائے اور اسلامی بند قائم کر کے لوگوں کو سود اور دیگر ناجائز معاملات سے بچانے کی کوشش کی جائے۔

ظاہر ہے ان دونوں راستوں میں سے دوسرا راستہ زیادہ بہتر ہے کہ سود اور دیگر ناجائز معاملات سے جس قدر بچا جا سکتا ہے اس قدر بچا جائے اور جو کمی اس نظام میں رہ گئی ہے مثلاً انشورنس اس کا تبادل تلاش کرائیکی کوشش کی جائے۔

اب الحمد للہ انشورنس کے شرعی تبادل ”تکافل“ کی عملی صورت سامنے آگئی

ہے۔ ایک تکافل کمپنی نے پاکستان میں اپنا کام شروع کر دیا ہے اور دیگر کئی کمپنیاں بھی کام شروع کرنے والی ہیں اور اسلامی بینک ان شورش چھوڑ کر تکافل اختیار کر رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ مشکل انسان، اللہ دور ہو جائے گی۔

**کیا نفع متعین یعنی فکس کرنے سے سود بن جاتا ہے؟**

**سوال: ۲۲**

یہ تصور عام ہے کہ اگر نفع فکس (Fix) ہو جائے تو وہ سود بن جاتا ہے، چنانچہ کنویشنل بینکوں کی فناںگ کو ناجائز کہنے کی ایک وجہ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں نفع فکس ہوتا ہے جو کہ شرعاً ناجائز ہے۔

سوال یہ ہے کہ اسلامی بینک بھی مرا بح میں اپنے کائنٹس سے فکس (Fix) نفع فیصد کے حساب سے لیتا ہے تو کیا اس طرح اسلامی بینک کا یہ معاملہ ناجائز نہیں ہو جاتا؟

**جواب:**

جو سود کنویشنل بینکوں میں راجح ہے، وہ ربا القرض (قرض والا سود) کہلاتا ہے جسکی حقیقت ان الفاظ میں بیان کی ہے:

”کل قرض جر منفعة فهو ربا“ (۱)

ہر وہ قرض جس میں اضافہ مشروط ہو، وہ سود کہلاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سود ہونے کیلئے بنیادی طور پر دو شرائط کا پایا جانا ضروری ہے:-  
(۱) معاملہ قرض کا ہو۔

(۱) عن عمارة الهمدانی قال سمعت علياً يقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کل قرض جر منفعة فهو ربا (مسند الحارث / زوائد البیشمی: ۵۰۰ / ۱)

(۲) قرض اس شرط پر دیا جائے کہ مقرض (Debtors) یہ قرض کچھ اضافے کے ساتھ واپس کریگا۔

گویا قرض پر دیئے جانے والے اضافے کے سود ہونے کیلئے صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ مشروط (Conditional) ہو، یعنی قرض کا معاملہ کرتے وقت یہ شرط لگائی گئی ہو کہ مقرض کچھ اضافے کے ساتھ واپس کریگا، یہ ضروری نہیں کہ وہ اضافے متعین ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ کنپنیشنل بینکوں کی فناںگ سودی معاملات میں اس لئے داخل ہے کہ ”اس میں کلاںٹ کو اس شرط پر قرض دیا جاتا ہے کہ وہ اضافے کے ساتھ واپس کرے گا“۔ اس وجہ سے داخل نہیں کہ یہ اضافے متعین اور فکس (Fix) ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر زید سبک کو سورپرے اس شرط پر قرض دیتا ہے کہ بکر اس کے بد لے سورپرے پر کچھ اضافے کر کے واپس کریگا تو یہ معاملہ ”سودی“ ہو جائیگا خواہ یہ بات طے نہ ہو کہ اضافے کتنا ہوگا۔

لہذا عام لوگوں کے ذہنوں میں موجود یہ تصور درست نہیں کہ جب نفع فکس ہو جائے تو وہ سود ہو جاتا ہے بلکہ سود ہونے کیلئے اس حقیقت کا پایا جانا ضروری ہے جو ابھی اوپر بیان کی گئی۔

اب یہ سمجھئے کہ مراجع کے ذریعے اسلامی بینک جو معاملہ کر رہا ہوتا ہے، وہ قرض کا نہیں ہوتا بلکہ خرید و فروخت (Sale) کا ہوتا ہے جس میں اسلامی بینک ایک متعین چیز کلائنٹ کو بیچ (Sell) رہا ہوتا ہے اور یہ بات اس رسالے کے شروع میں بیان ہوئی کہ مراجع کی وہ قسم ہے جس میں بچھتے والے (Seller) پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ خریدار (Buyer) کو یہ بتلائے کہ اسے یہ چیز کتنے میں پڑی اور وہ اس پر کتنا نفع لے رہا ہے، گویا اسلامی بینک کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ مراجع میں فکس (Fix) نفع لے کر سامان آگے فروخت کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریگا تو شرعاً یہ

معاملہ مرا بح کا نہیں رہیگا جبکہ فریقین نے باہمی طور پر مرا بح کا معاملہ طے کیا تھا۔

خلاصہ یہ کہ اول تو یہ تصور ہی غلط ہے کہ نفع متعین (Fix) کرنا جائز نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کنویشنل بینک اور اسلامی بینک کے معاملات کی حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے، لہذا مرا بح میں متعین نفع لینے کو مذکورہ غلط تصور پر قیاس کر کے ناجائز کہنا ہرگز درست نہیں۔

## ایل سی چار جز لینے کا حکم

سوال: ۲۳

اپورٹ مرا بح میں کنویشنل بینکوں کی طرح اسلامی بینک بھی ایل سی جاری کرنے پر فیس لیتے ہیں حالانکہ آئمیں بینک اپنے کلائنٹ کے لئے گارنٹی (Guarantee) جاری کرتا ہے، اور گارنٹی کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس کی اجرت لینا جائز نہیں۔ کیا اس صورتحال میں اسلامی بینکوں کیلئے ایل سی کے چار جز لینا جائز ہے؟

جواب:

ایل سی کھلوانے کی تین صورتیں ہیں۔

(۱) زیر و مار جن ایل سی:- ایسی ایل سی جس میں بینک ایل سی کھولتے وقت کلائنٹ سے کچھ نہیں لیتا بلکہ ساری ادائیگی بعد میں کیجا تی ہے۔

(۲) مار جن ایل سی:- ایسی ایل سی جس میں بینک منگوائے جانے والے سامان کی قیمت کا کچھ حصہ لیتا ہے۔ اس صورت میں قیمت کا جتنا حصہ لیا جائے، اتنے فیصد پر ایل سی کھلانا کہتے ہیں مثلاً اگر کل قیمت کا بیس (۲۰) فیصد ادائیگی کر کے ایل سی

کھلوائی گئی تو کہا جائیگا کہ میں (۲۰) فیصد مارجن پر ایل سی کھلوائی گئی۔

(۳) فل مارجن ایل سی: ایسی ایل سی جس میں بینک ایل سی کھولتے وقت کلاسٹ سے سامان کی پوری قیمت لے لیتا ہے۔

پہلی اور دوسری قسم کی ایل سی میں اسلامی بینک ایل سی کھولتے وقت کلاسٹ سے ایجنسی ایگر یمنٹ کرتا ہے جسکی وجہ سے کلاسٹ بینک کے وکیل ہونے کی حیثیت سے سامان خریدتا ہے اور اصل خریدار خود بینک ہوتا ہے۔

اگر زیر و مارجن پر ایل سی ہو تو اس صورت میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ پورے سامان کا خریدار بینک ہوتا ہے اور اگر مارجن پر ایل سی کھولی جائے تو اس صورت میں بھی سارا سامان بینک خود خریدتا ہے البتہ کلاسٹ سے مراجع کرتے وقت مارجن کی رقم قیمت کا نقد حصہ بن جاتی ہے اور بقیہ قیمت قسطوں میں (یا یکمشت) وصول کی جاتی ہے۔ مذکورہ دونوں صورتوں میں بینک کلاسٹ کی طرف سے ایکسپورٹر کو کوئی گارنٹی فراہم نہیں کر رہا ہوتا بلکہ شرعی نقطہ نظر سے اسکی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ خریدار بالعکو یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تم فلاں سامان مجھے بچ دو تو میں اسکی قیمت کی ادائیگی کا ضامن ہوں۔

اگر فل مارجن پر ایل سی کھولی گئی تو اسکی دو صورتیں ہو سکتی ہیں:-

(۱) بینک ایل سی کھولتے وقت کلاسٹ سے ایجنسی ایگر یمنٹ کر لے اور سارا سامان خود خرید لے البتہ مطلوبہ سامان آنے کے بعد کلاسٹ سے مراجع میجاہ (Spot Murabaha) کر لے۔ اس صورت میں بھی بینک کلاسٹ کی طرف سے ایکسپورٹر کو کوئی ضمانت فراہم نہیں کریگا اور اس کا حکم بھی وہی ہو گا جو کہ مذکورہ بالادو صورتوں کا بیان کیا گیا۔

(۲) ایل سی کھولتے وقت ایجنسی ایگر یمنٹ نہ کیا جائے اور سامان کا خریدار

کلائنٹ ہو۔ اس صورت میں بینک اپنے کلائنٹ کو صرف وکالت اور کفالت کی خدمات فراہم کریگا۔ وکالت کی وجہ سے امپورٹر کا وکیل بن کر ایکسپورٹر سے معاملات کریگا جبکہ کفالت کی وجہ سے امپورٹر کی طرف سے ایکسپورٹر کو گارنٹی فراہم کریگا۔

وہ صورتیں جن میں بینک خود خریدار ہوتا ہے، ان میں اسلامی بینک ایل سی کھولنے اور اس پورے معاملے کو انجام دینے میں ہونے والے اخراجات و سامان کی لاگت (Cost) میں شامل کر سکتا ہے۔ اور وہ صورت جس میں اسلامی بینک وکالت اور کفالت (Guarantee) کی خدمات انجام دیتا ہے تو اسکے بارے میں اصل حکم یہ ہے کہ بینک کے لئے وکالت (Agency) کی اجرت لینا جائز ہے لیکن کفالت یعنی گارنٹی کی اجرت لینا جائز نہیں۔ چونکہ بینک یہ دونوں خدمات ایک ہی معاملے (یعنی ایل سی کھولنے) کے نتیجے میں انجام دیتا ہے تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی بینک ایل سی کھولنے کے نتیجے میں کلائنٹ کو دونوں خدمات فراہم کرتا ہے جن میں سے ایک کی اجرت لینا جائز ہے اور دوسرے کی اجرت لینا جائز نہیں۔

اب اگر اس مجموعی عقد کے نتیجے میں بینک کلائنٹ سے کوئی اجرت لیتا ہے تو تصحیح اللعقد (یعنی عقد کو صحیح کرنے کیلئے) یہ کہا جا سکتا ہے کہ لی گئی یہ اجرت صرف وکالت کی اجرت ہے اسلئے کہ فقہاء کرام نے ایسی متعدد مثالیں بیان فرمائی ہیں، جہاں کسی عقد کی دو صورتیں فرض کی جاسکتی ہیں، ایک صورت کے اعتبار سے وہ عقد ناجائز قرار پاتا ہے جبکہ دوسری صورت کے لحاظ سے وہ جائز ہوتا ہے لیکن انہوں نے تصحیح اللعقد اس عقد کی وہ صورت فرض کی جس سے اس عقد کے کرنے گنجائش معلوم ہوئی مثلاً شریعت کا یہ قانون ہے کہ اگر سونے کی سونے کے بدالے میں یا چاندی کی چاندی کے بدالے میں بیع (Sale) کی جائے تو دونوں طرف سے برابری ضروفتی ہے، کمی بیشی

جائز نہیں لیکن فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے دو دینار اور ایک درہم دیکر اسکے بد لے ایک دینار اور دو درہم خرید لئے تو یہ معاملہ جائز ہوگا۔ (دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں جبکہ درہم چاندی کے سکے کو) اس معاملے میں اگر یوں سمجھا جائے کہ ایک طرف سے ایک دینار دیا گیا اور ایک طرف سے زیادہ سونا دیا گیا اور دوسری طرف سے کم۔ اسی طرح درہم کی صورت میں ایک فریق نے ایک درہم دیا اور دوسرے فریق نے دو درہم دیے گویا ایک فریق نے کم چاندی دی اور دوسرے فریق نے زیادہ۔

اب اگر یہ فرض کیا جائے کہ اس معاملہ میں ایک دینار کا تبادلہ (Exchange) دو دینار کے بد لے ہوا ہے اور ایک درہم کا تبادلہ دو درہم سے ہوا ہے تو یہ معاملہ ناجائز قرار پائیگا کیونکہ یہاں دونوں طرف سے عوض میں برابری نہیں، لیکن اگر یوں فرض کیا جائے کہ ایک طرف سے دیئے گئے دو دینار دوسرے فریق کی طرف سے دیئے دو درہم کے مقابلے میں ہیں اور دوسرے فریق کی طرف دیا گیا ایک دینار پہلے فریق کے ایک درہم کے مقابلہ میں ہے گویا یہاں سونے کا سونے سے اور چاندی کا چاندی کے مقابلہ میں تبادلہ نہیں ہوا بلکہ سونے کا چاندی کے مقابلہ میں تبادلہ (Exchange) ہوا ہے، اور جب سونے کا چاندی سے یا چاندی کا سونے سے تبادلہ ہو تو کمی بیشی جائز ہے، گویا دوسری طرح فرض کرنے سے یہ صورت جائز ہو جائیگی۔

اس کے علاوہ فقہاء کرام نے اور بھی مثالیں ذکر فرمائی ہیں جہاں اس طرح فرض کر لینے سے معاملہ جائز قرار پاتا ہے (۱)

(۱) ملاحظہ فرمائیے: الہدایۃ، کتاب الصلح و کتاب الاجارة، البحر الرائق، کتاب البيوع و کتاب الرهن، رد المحتار، کتاب البيوع و کتاب الصلح، بداع الصنائع، کتاب الاجارة، المغنى کتاب البيوع، مسألة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان.

لہذا نہ کوہ صورت میں بھی اگر یہ کہا جائے کہ دی گئی اجرت کے بارے میں یہ سمجھا جائیگا کہ یہ وکالت کے مقابلے میں ہے، کفالت (گارنٹی) کے مقابلے میں نہیں تو اسلامی بینک کے لئے ایسی کی اجرت لینا جائز ہوگا۔

**کیا قبل از وقت ادائیگی کی صورت میں کلائنٹ کو**

**رعایت (Rebate) دی جاسکتی ہے؟**

**سوال: ۲۲**

اگر کوئی کلائنٹ مقررہ مدت سے پہلے ادائیگی کر دے تو بعض اسلامی بینک اسے رعایت (Rebate) دے کر کچھ کم رقم وصول کرتے ہیں۔ کیا اسلامی بینک کے لئے ایسا کرنا جائز ہے؟

**جواب:**

اگر مرابح کرتے وقت یہ بات طے ہو کہ اگر کلائنٹ وقت سے پہلے ادائیگی کریگا تو بینک اسے رعایت دینے کا پابند ہو گا تو پھر یہ معاملہ جائز نہیں البتہ اگر پہلے سے طے نہ ہو بلکہ وقت سے پہلے ادائیگی کرنے کی وجہ سے بینک خالصتاً اپنی صوابدید پر (On its Sole discretion) کلائنٹ کو کچھ رعایت دینا چاہے تو دے سکتا ہے البتہ اس کی مستقل عادت نہ بنائی جائے اور کلائنٹ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ رعایت اس کا اتحاق (Right) نہیں بلکہ بینک کی طرف سے اس کے ساتھ رعایت ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مرابح مکمل ہو جانے کے بعد بیچے گئے سامان (Goods) کی قیمت کلائنٹ پر قرض ہو جاتی ہے۔ اور قرض کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ چاہے وہ وقت سے پہلے ادا کیا جائے یا بروقت ادا کیا جائے یا کسی وجہ

سے اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے قرض کی مقدار میں کوئی فرق نہیں آتا، چنانچہ جس طرح قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہونے پر قرض خواہ (Creditor) کو زیادہ رقم لینے کا حق حاصل نہیں (کیونکہ یہ سود کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے) اسی طرح وقت سے پہلے ادائیگی کرنے کی صورت میں مقرض کو کچھ رقم معاف کرانے کا حق حاصل نہیں بلکہ اس پر پوری ہی رقم کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ البتہ اگر بینک اپنے طور پر اسے کچھ رعایت دے تو یہ جائز ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ بینک اپنا حق معاف کر رہا ہے۔

رعایت دینے کیلئے یہ ضروری نہیں کہ بینک کم رقم وصول کرے بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بینک اگلی ٹرانزکشن میں قبل از وقت ادائیگی (Payment Before due date) کو مد نظر رکھتے ہوئے نفع کا تناسب (Ratio of Profit) کم کر لے۔

**کیا صدقہ (Charity) کو معاف کر کے اگلی ٹرانزکشن میں نفع**

**بڑھایا جا سکتا ہے؟**

**سوال: ۲۵**

قبل از وقت ادائیگی کی صورت میں آپ بینک کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ اس ادائیگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلی ٹرانزکشن میں نفع کا تناسب کم کر لے تو پھر تاخیر سے ادائیگی کی صورت میں بینک کو اجازت ہونی چاہے کہ وہ کلائنٹ سے صدقہ (Charity) نہ لے اور اگلے مراجحے میں نفع کا تناسب (Rate of profit) بڑھالے؟

**جواب:**

ان دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے۔ قبل از وقت ادائیگی کی صورت میں رعایت (Rebate) دینا بینک کے اپنے حق (Right) سے متعلق ہے۔ اس

لئے اس کا فیصلہ بینک کی اپنی صوابدید (Discretion) پر منحصر ہے جبکہ تا خیر کی صورت میں ملنے والا صدقہ (Charity) بینک کا حق نہیں بلکہ شریعت کا حق ہے (کیونکہ یہ صدقہ اس پر اس لئے واجب ہوتا ہے کہ وہ یہ نذر مانتا ہے کہ اگر میں نے بروقت ادا نیگی نہ کی تو اتنی رقم صدقہ کروں گا) یہی وجہ ہے کہ اگر بینک یہ کہہ بھی دے کہ ہم یہ صدقہ نہیں لیں گے تو بھی یہ صدقہ معاف نہیں ہوتا کیونکہ بینک کو معاف کرنے کا اختیار نہیں لہذا بینک یہ صدقہ معاف کر کے اگلی ٹرانزکشن میں نفع کا تناسب نہیں بڑھا سکتا۔

کیا مراجح سے پہلے پرمیسری نوٹ لیا جا سکتا ہے؟

سوال:

بہت سے اسلامی بینک مراجح ہونے سے پہلے کلاائنٹ سے پرمیسری نوٹ (Promissory Note) لے لیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب:

پرمیسری نوٹ ایک قسم کی ضمانت (Collateral) ہے جس طرح دیگر ضمانتیں جیسے رہن (Mortagage) اور جزل گارنی وغیرہ کلاائنٹ کو فناں کرنے سے پہلے لینا جائز ہے، اسی طرح پرمیسری نوٹ بھی مراجح وغیرہ کے ذریعے فناں کرنے سے پہلے لیا جا سکتا ہے۔ (۱)

البتہ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پرمیسری نوٹ کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوتی ہے۔

(1)AAOIFI'S Shariah Standard No:8(Murabaha to the purchase order.P:121.

I promise to pay-----for the value

consideration received.

میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اتنی رقم ادا کروں گا اس معاوضے کے بدالے میں جو میں نے حاصل کیا۔

گویا اس میں کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ میں ولیو (Value) وصول کر چکا ہوں حالانکہ مراد کرنے سے پہلے اسے کچھ ولیو وصول نہیں ہوتی، اسلئے اس کا لینا اسی وقت صحیح ہونا چاہئے جب کلائنٹ مراد کے لئے چکا ہو ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی وجہ سے مراد نہ ہو سکے لیکن بنیاد پر بذریعہ عدالت کلائنٹ سے اتنی رقم لے لے، جتنی رقم کا پرمیسری نوٹ تیار کیا گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حکومتی قانون کے مطابق پرمیسری نوٹ کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں جب تک اتنی رقم کی ٹرانزکشن کا کوئی عملی ثبوت (Evidence) نہ ہو، گویا ٹرانزکشن ہونے سے پہلے اس کی حیثیت محض ایک کاغذ کی ہے جس کی بنیاد پر بنیک بذریعہ عدالت کچھ وصول نہیں کر سکتا البتہ ٹرانزکشن ہو جانے کے بعد یہ ایک سیکورٹی کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔

لہذا چونکہ مراد سے پہلے پرمیسری نوٹ لینے کی صورت میں مذکورہ خطرہ درپیش نہیں ہوتا، اسلئے مراد سے پہلے پرمیسری نوٹ لیا جا سکتا ہے۔

یہ اجازت کسی حد تک عملیت پسندی پر بھی منی ہے چونکہ بصورت دیگر ہر مراد کا Promissory Note الگ الگ بنانا پڑے گا جو طول عمل بھی ہو گا اور کلائنٹ یا اس کے مجاز نمائندے کی عدم موجودگی میں اس پر دستخط بھی نہیں ہو سکیں گے جس کے باعث مراد کرنے میں روکاؤں پیدا ہوں گی۔

کیا کئی ٹرانزیکشنز کا اکٹھا ایک پرمیسری نوٹ تیار کیا جاسکتا ہے؟

سوال: ۲۷

ایک کلائنٹ جس نے مرا بح کی ایک بڑی لمب (Limit) بینک سے منظور کرائی ہوئی ہے اور وقتاً فوتاً (From time to time) بینک سے مرا بح کرتا رہتا ہے۔ عام طور پر بینک اس سے ہر مرا بح کی ٹرانزکشن پر الگ الگ پرمیسری نوٹ لیتا ہے اور ہر پرمیسری نوٹ پر کافی رقم کے نکٹ لگتے ہیں۔

لہذا وہ کلائنٹ جو مسلسل کئی مرانے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اسے ان پرمیسری نوٹوں (Promissory Notes) پر کافی رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہونے والے مرانے کی تمام ٹرانزکشن کا ایک ہی پرمیسری نوٹ بنایا جائے تاکہ کلائنٹ کا خرچہ (Expenses) کم ہو جائے۔

جواب:

جس طرح ایک ٹرانزکشن کی رقم کا پرمیسری نوٹ بنانا جائز ہے، اسی طرح کئی کئی ٹرانزکشن کی رقم کا اکٹھا پرمیسری نوٹ بھی بنایا جاسکتا ہے شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں۔

مرا بح میں روپ اور (Rollover) کیوں ناجائز ہے؟

سوال: ۲۸

اگر کلائنٹ ڈیفالت کر جائے تو کنویشنل بینک روپ اور (Rollover) کر کے اپنا نقصان پورا کر سکتا ہے لیکن اسلامی بینکوں کو مرا بح میں روپ اور کرنے کی

اجازت نہیں کیوں کہ روپ اور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرعاً ناجائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ روپ اور کے ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟

جواب:

روپ اور کی حقیقت یہ ہے کہ کلاسٹ کسی وجہ سے مقرر مدت (On Due Date) پر واجب الاداء رقم کی ادائیگی نہ کر سکا۔

اب وہ بینک سے درخواست کرتا ہے کہ اسے وہی سامان دوبارہ پیچ دیا جائے جو سامان پہلے بینک نے اسے بیچا تھا اور جس کی قیمت کی ادائیگی وہ نہیں کر سکا۔ گویا اس میں کلاسٹ اس سامان کو دوبارہ خریدنا چاہتا ہے جسے وہ پہلے بینک سے خرید چکا ہے۔ ایسا کرنا جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں وہ ایسا سامان خرید رہا ہوتا ہے جس کا وہ پہلے سے مالک بن چکا ہے اور ظاہر ہے کہ اپنی مملوکہ چیز کے بارے میں دوسرے سے یہ کہنا جائز نہیں کہ مجھے یہ چیز اتنے میں پیچ دو۔

کیا مرا بح کو سیکوریٹیائز کیا جا سکتا ہے؟

سوال: ۲۹

کیا مرانے کی سیکوریٹیائزیشن کی جا سکتی ہے یعنی اس کے صکوں یا شیئرز بنانے کے مارکیٹ میں بیچے جا سکتے ہیں؟

جواب:

مرا بح کامل ہو جانے کے بعد اس کی قیمت کلاسٹ پر قرض ہو جاتی ہے اور صرف قرض کے بدے لے قرض کی مالیت سے زیادہ کے صکوں یا شیئرز جاری نہیں ہو سکتے،

اسلئے مراد کے بعد اس کو سیکوریٹائز کرنا لا حاصل ہے سوائے اس کے کہ کچھ لوگ تبرعاً یہ معاملہ کرنے پر تیار ہوں۔

اپورٹ مراد کے ساتھ ایجنسی ایگر یمنٹ کیوں کرایا جاتا ہے؟

سوال: ۳۰

اپورٹ مراد میں ایل سی کھولنے کے ساتھ ہی اسلامی بینک ایجنسی ایگر یمنٹ کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ایجنسی ایگر یمنٹ ایل سی کھولتے وقت ہی کرنا ضروری ہے۔

جواب:

اپورٹ مراد میں اگر ایل سی کھولنے کے ساتھ ایجنسی ایگر یمنٹ نہ کیا جائے تو باہر سے آنے والے سامان کا خریدار براہ راست کلاائنٹ ہو گا، اسلامی بینک اسی مرحلے پر ایجنسی ایگر یمنٹ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اصل خریدار بینک بن جاتا ہے اور کلاائنٹ بینک کا ایجنت بن جاتا ہے۔ اسلئے یہ ایجنسی ایگر یمنٹ ایل سی کھلنے کے ساتھ یا اس سے قبل ہونا چاہئے۔ اس میں تاخیر کرنا درست نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمُ الْكِتَابَ فَلَا يَكُونُ لَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
القرآن

# اسلامی پینکاری

اور

(Uncertainty)

# عَزَّزَر

تألیف

ڈاکٹر مولانا عمار احمد صدیقی

استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

# ادارہ اسلامیات

کراچی - لاہور

# اسلامی پینکاری

## ایک حقیقت پسندانہ جائزہ

مُولانا طاوسی احمد صمدانی  
تحریر  
انستاد جامعہ دارالعلوم کراچی

اطارہ اسلامیات  
کراچی، لاهور